

20.04.2022

Appellant present in person. Mr. Noor Zaman Khattak, District Attorney for the respondents present.

Appellant requested for adjournment on the ground that his counsel is out of station. Adjourned. To come up for arguments on 17.06.2022 before the D.B at Camp Court Abbottabad.



(Rozina Rehman)  
Member (J)  
Camp Court, A/Abad



(Salah-Ud-Din)  
Member (J)  
Camp Court A/Abad

17.06.2022

Appellant with counsel present.

Muhammad Riaz Khan Paindakheil, learned Assistant Advocate General alongwith Sohail Ahmad Zeb Litigation Officer for respondents present.

Request for adjournment was made on behalf of appellant in order to prepare the brief. Adjourned. To come up for arguments on 19.03.2022 before D.B at Camp Court, Abbottabad.



(Fareeha Paul)  
Member (E)  
Camp Court, A/Abad



(Rozina Rehman)  
Member (J)  
Camp Court, A/Abad

15.06.2021 Due to cancellation of tour, Bench is not available. Therefore, case to come up for the same as before on 29.09.2021.



Reader

29.09.2021 Nemo for the appellant. Mr. Muhammad Riaz Khan Paindakhel, Asstt. AG alongwith Sohail Ahmad Zeb, Litigation Officer for the respondents present.

Notices be issued to appellant/counsel for the next date. Case to come up for arguments on 18.01.2022 before the D.B at Camp court, Abbottabad




(Rozina Rehman)  
Member(Judicial)  
Camp Court, A/Abad




Chairman  
Camp Court, A/Abad

18.01.2022 Clerk of learned counsel for the appellant present. Mr. Sohail Ahmed Zeb, Litigation Officer alongwith Mr. Kabirullah Khattak, Additional Advocate General for the respondents present.

Clerk of learned counsel for the appellant requested for adjournment on the ground that learned counsel for the appellant is busy in the august Peshawar High Court, Abbottabad Bench. Adjourned. To come up for arguments on 20.04.2022 before the D.B at Camp Court Abbottabad.



(Rozina Rehman)  
Member (J)  
Camp Court A/Abad




(Salah-ud-Din)  
Member (J)  
Camp Court A/Abad

21.10.2020


Appellant in person present.

Usman Ghani learned District Attorney alongwith Sohail Ahmad Zeb Litigation Assistant for respondents present.

Written reply/comments on behalf of respondents is still awaited. Representative of respondents made a request for adjournment to furnish reply/comment. Opportunity is granted. To come up for written reply/comments on 16.12.2020 before S.B at Camp Court, Abbottabad.

  
(Rozina Rehman)  
Member (J)  
Camp Court, A/Abad

*Due to COVID-19 case is  
adJourned to 17-03-2021*


  
Reader

17.03.2021

Learned counsel for the appellant present.

Riaz Khan Paindakheil learned Asst. AG alongwith Sohail Ahmed Zeb Litigation Officer for respondents present.


Representative submitted reply/comments on behalf of respondent No. 1 to 4 which is placed on file. To come up for rejoinder in any, and arguments on 17.106/2021 before D.B at Camp Court Abbottabad.

  
(Atiq ur Rehman Wazir)  
Member (E)  
Camp Court, A/Abad

Due to covid ,19 case to come up for the same on / /  
at camp court abbottabad.

Reader

Due to summer vacation case to come up for the same on 12/  
10 / 20 at camp court abbottabad.

  
Reader

22.01.2020

Appellant in person present. Written reply not submitted. Sohail Ahmad Zeb Litigation Officer representative of respondent department present and seeks time to furnish reply. Granted. To come up for reply on 24.01.2020 before S.B at Camp Court Abbottabad.



Member  
Camp Court, A/Abad

24.01.2020

Appellant in person present. Written reply not submitted. Sohail Ahmad Zeb Litigation Officer representative of the respondent department present and seeks time to furnish reply. Granted. To come up for written reply/comments on 17.02.2020 before S.B at Camp Court Abbottabad.



Member  
Camp Court, A/Abad


19.11.2019

Appellant with counsel present. Preliminary arguments heard.

The appellant (PSHT) has filed the present service appeal against the order dated 28.05.2019 whereby major penalty of reduction of three lower stages in time scale, was imposed upon him, alongwith recovery of embezzlement amount Rs.360000/- (Rupees Three lac sixty Thousand only) in PTC funds/conditional grants. The factum of rejection of departmental appeal, filed by the appellant, was communicated vide office letter dated 11.09.2019.


Points urged need consideration. The present service appeal is admitted for regular hearing subject to all just legal objections. The appellant is directed to deposit security & process fee within 10 days. Thereafter notices be issued to the respondents for reply/comments. To come up for written reply/comments on 18.12.2019 before S.B at Camp Court, Abbottabad.

Appellant Deposited  
Security & Process Fee

  
Member  
Camp Court, A/Abad

18.12.2019

Appellant in person and Mr. Ziaullah, Deputy District Attorney alongwith Mr. Muhammad Tufail, Assistant Litigation Officer for the official respondents present. Written reply on behalf of respondents has not been submitted. Representative of the department seeks time to submit written reply. Appellant stated that the respondent-department is going to make recovery from him and requested that the respondent-department may be restrained from making recovery till the decision of the case as the impugned recovery has been challenged in the present service appeal, therefore, respondents are restrained from making recovery from the appellant till next date. Case to come up for written reply/comments on 22.01.2020 before S.B at Camp Court Abbottabad.



  
(Muhammad Amin Khan Kundi)  
Member  
Camp Court Abbottabad

Form- A

### FORM OF ORDER SHEET

Court of \_\_\_\_\_

Case No.- 1341/2019

S.No.	Date of order proceedings	Order or other proceedings with signature of judge
1	2	3
1-	14/10/2019	<p>The appeal of Mr. Haq Nawaz presented today by Mr. Khaled Rabbani Advocate may be entered in the Institution Register and put up to the Worthy Chairman for proper order please.</p> <p style="text-align: right;"> REGISTRAR - 14/10/19</p>
2-		<p>This case is entrusted to touring S. Bench at A.Abad for preliminary hearing to be put up there on <u>19-11-2019</u></p> <p style="text-align: right;"> CHAIRMAN</p>

BEFORE THE HONOURABLE KHYBER PAKHTUNKHWA  
SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR

Service Appeal No. 1341 /2019

Haq Nawaz PSHT, GPS Jandar Dhaki, Circle Boi, Tehsil & District  
Abbottabad.

...APPELLANT

VERSUS

Director Education Elementary & Secondary, Education Khyber  
Pakhtunkhwa, Peshawar & others.

...RESPONDENTS

APPEAL

INDEX

S.#	Description	Page #	Annexures
1.	Service Appeal alongwith affidavit	1 to 15	
2.	Copies of the reports	16-35	"A"
3.	Copy of the order Endst. No. 2508-10/FP&D/Circle Boi, dated 09/03/2017	36-60	"B"
4.	Copy of appeal	61-69	"C"
5.	Copy of order/ judgment dated 23/11/2017	70-73	"D"
6.	Copy of execution petition alongwith order sheets	74-97	"E" & "F"
6.	Copy of final show cause notice	98-102	"G"
7.	Copy of the written reply	103-105	"H"
8.	Copy of later	106-108	"I"
9.	Copy of written reply respondent No. 2	107-111	"J"
10.	Copy of the order	112	"K"
11.	Copies of departmental appeal alongwith postal receipt	113-121	"L"
12.	Copy of later Endst. No. 669, dated 11/09/2019	122	"M"
13.	Copy of the report of Engineer from C&W department	123-126	"N"



14.	Copies of the relevant pages of PTC Law	127-145	"O"
15.	Copy of the proof of gratification alongwith all relevant documents and result of inquiry	146-196	"O-I"
16.	Copy of the order No. 265-67 dated 07/01/2017 as attached as Annexure "P" and copy of the show cause notice alongwith reply and the relevant documents/ medical certificate	197-218 219-231	"P" & "P-I"
17	Copy of the monthly pay slip for the months of July, 2019 to September 2019	232-234	"Q"
18	Wakalatnama	235	

*[Handwritten Signature]*  
...APPELLANT

Dated: \_\_\_\_\_/2019

Through

*[Handwritten Signature]*

(KHALID RABBANI)  
Advocate High Court, Abbottabad

  
**BEFORE THE HONOURABLE KHYBER PAKHTUNKHWA**  
**SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR**

Service Appeal No. 1341 - 8/2019

Haq Nawaz PSHT, GPS Jandar Dhaki, Circle Boi, Tehsil & District  
Abbottabad.

...APPELLANT

Khyber Pakhtunkhwa  
Service Tribunal

VERSUS

Diary No. 1444

Dated 14/10/2019


1. Director Education Elementary & Secondary Education Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
2. District Education Officer (Male), Abbottabad.
3. SDEO (Male), Primary Abbottabad.
4. District Accounts Officer District Comptroller of Accounts, Abbottabad.

...RESPONDENTS

**SERVICE APPEAL** UNDER SECTION 4 OF  
KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE  
TRIBUNAL ACT, 1974 AGAINST THE ORDER  
OF RESPONDENT NO. 2 DECLARING TO THE  
EFFECT THAT ENDST. NO. 6207-II/HAQ  
NAWAZ P&D, DATED 25/05/2019 IS VOID,  
CONTRARY TO LAW, BASED ON MALICE,  
MALAFIDE, ILL WILL OF RESPONDENT,  
ARBITRARY HENCE INEFFECTIVE UPON  
THE RIGHTS OF APPELLANT.

---

---

**Filed to-day**  
  
**Registrar**  
14/10/19

PRAYER: ON ACCEPTANCE OF THE INSTANT APPEAL IMPUGNED ORDER ENDST. NO. 6207-II MENTION IN THE HEADING OF SERVICE APPEAL MAY KINDLY BE DECLARED AS NULL AND VOID, BASED ON ILL WILL OF RESPONDENTS AND MALICE, CONSEQUENTLY APPELLANT BE EXONERATED FROM THE CHARGES, ANY OTHER RELIEF WHICH THIS HONOURABLE TRIBUNAL MAY DEEM APPROPRIATE AND FIT UNDER THE CIRCUMSTANCES OF THE CASES MAY ALSO BE GRANTED.

---

---

Respectfully Sheweth:-

1. That appellant is a teacher by Profession and Joined Education Department as Teacher in BPS-5 in Primary School and after completion of Job with highly Satisfaction of the Superiors promoted upto BPS-15.

2. That during the present Government Era in Education Department a developmental Program/ planning was made through which for the purpose of security and safety, Government provided funds to the different school for construction of boundary walls and for other necessary requirements.
  
3. That appellant was posted at GPS Jandar Dhakki Union Council Kukmong District Abbottabad for which Government provided funds for the construction of boundary wall and funds were being utilized through PTC under the supervision of local representatives.
  
4. That appellant has started the work at site for construction of boundary wall with the consent and in consultation with the Chairman PTC, under the supervision of local representatives.
  
5. That during the continuance till the finalization of the work at site, the local representatives and the Chairman PTC

remained satisfied with the progress of appellant for which they have submitted the satisfactory report up to the work done. Copies of the reports are annexed as Annexure "A".

6. That with the malice of the local political workers and for achieving political goals so called inquiry was started against the appellant through respondent No. 2.

7. That neither proper inquiry was conducted nor appellant was provided an opportunity of being heard personally, on the basis of impugned/ so-called inquiry respondent NO. 2 awarded punishment to the appellant through letter No. 2508-10, dated 02/03/2017 for the recovery of 03 Lacs (3,000,00/-) and the reduction of appellant BPS-15 to BPS-14. Copy of the order Endst. No. 2508-10/FP&D/Circle Boi, dated 09/03/2017 is annexed as Annexure "B".

8. That feeling aggrieved from the illegal orders of ~~the~~ respondent No. 2, appellant



preferred departmental appeal before respondent No. 1 but of no use.

9. That after fulfilling the codal formalities, appellant preferred service appeal bearing No. 715-2017 before this Honourable Tribunal on the facts and grounds mentioned therein. Copy of appeal is annexed as Annexure "C".
10. That through the process of this Honourable Tribunal respondent appeared and contested the appeal before this Honourable Tribunal.
11. That this Honourable Tribunal on 23/11/2017 pass judgment in service appeal No. 715/2017 and held that *"consequently the present appeal is accepted and the impugned order is set-aside. The department is however, at liberty to hold denovo proceedings in accordance with law/ rule. parties are left to bare there own costs. File be consigned to record room. Copy of order/ judgment dated 23/11/2017 is annexed as Annexure "D".*



- 6 -

12. That appellant file execution petition in the light of the orders/ judgment of this Honourable Tribunal which is pending before this Honourable Tribunal and is fixed for 20/11/2019. Copy of execution petition alongwith order sheets are annexed as Annexure "E" & "F".
  
13. That it is wroth to mention here that in the impugned order respondent No. 2 stated that appellant served through inquiry committee on 04/06/2018 where as the appellant came to the knowledge through the representative of respondent during the proceedings of execution petition No. 180/17 on 15/01/2019. Surprisingly only one page of final show cause notice was handed over to appellant in the court, neither findings of inquiry committee nor any charge sheet or any other documents have been given to the appellant. Copy of final show cause notice is annexed as Annexure "G".

125/11/19  
1158  
to  
d/...

14. That on 02/02/2019 appellant was personally heard through head clerk namely Muhammad Ayaz against whom appellant agitated objection of personal hearing being incompetent person through written reply. Copy of the written reply is annexed as Annexure "H".

15. That in result of the objection made by appellant respondent No. 2 again issued letter No. 1619 dated 11/02/2019 for again personal hearing on 16/02/2019. Copy of later is annexed as Annexure "I".

16. That the appellant again submitted written reply to respondent NO. 2 during personal hearing and verbally explain the position.

17. It is worth to mentioned here that during second personal hearing before respondent No. 2 and the clerk namely Muhammad Ayaz, petitioner/ appellant requested to hand over the charge sheet and inquiry report alongwith necessary documents, but respondent No. 2 and clerk ~~was~~ Muhammad



Ayaz did not provided any document to appellant which by law they were bound to hand over the documents to appellant. Copy of written reply<sup>to</sup>/respondent No. 2 is annexed as Annexure "J".

18. That respondent No. 2 issued impugned order dated 28/05/2019 which is arbitrary, against the facts, based on malafide, ill will, having no legal effect upon the rights of the appellant, which was received by appellant on 06/07/2019. Copy of the order is annexed as Annexure "K".

19. That feeling aggrieved from impugned order appellant preferred a departmental appeal before respondent No. 1. Copies of departmental appeal alongwith postal receipt are annexed as Annexure "L".

20. That a letter from the office of respondent No. 1 received on 19/09/2019 through post office mentioning there in that appeal of appellant has been rejected. Copy of later

~~11/9~~  
-9-

Endst. No. 669, dated 11/09/2019 is annexed as Annexure "M".

21. That the impugned order Endst. No. 6207-11/Haq Nawaz/ P&D dated 28/05/2019 is against the law, fanciful, arbitrary, based on malafide, hence untenable in the eye of law on the following grounds inter-alia others;-

**GROUND S;-**

- a) That the so called inquiry has not been conducted as per law and appellant condemned unheard without providing the documents i.e charge sheet, inquiry report, and other relevant document, hence appellant remained condemned unheard.
- b) That appellant have inquired/ the work done at the site through specification/ measurement by the Engineer C&W Department privately whose report shows that work done at the site is of Rs. 11,85,710/- value where as total amount/Grant for the

~~18~~  
-10-

purpose was only Rs. 6,60,623/-.

Copy of the report of Engineer from C&W department is annexed as Annexure "N".

c) That a PTC is constituted for the purposes like the case of appellant and as per the rules PTC fund is non auditable and if there is any need only third party can check the mature for the purpose of which Secretary Education will constitute/appoint third party. Copy of the relevant pages of PTC Law is annexed as Annexure "O".

d) That in the year 2014 appellant was promoted from BPS-14 to BPS-15 and was transferred to out station not *only* from Union Council but from Tehsil in consequent/result of not paying the gratification by appellant to the then SDEO Mr. Ghulam Safdar.

197

- e) That when this fact brought to the notice of the then D.E.O who challenged appellant to provide proof of gratification.
- f) In result of the challenge appellant paid Rs. 3000/- by keeping record with him as a proof of gratification received by the SDEO.
- g) That in result of the proof given by appellant, appellant transferred again in the Union Council through corrigendum, while inquiry went upto the worthy Chief Secretary Khyber Pakthunkhwa who passed proper orders in the matter. Copy of the proof of gratification alongwith all relevant documents and result of inquiry are attached as Annexure "O-I".
- h) That the whole story against the appellant is based on malafide, during personal hearing in another matter Ex

DEO Mr. Zia ud Din (Now Dead) had abused appellant and has appointed from his own office SDEO Mr. Babar Bashir as inquiry officer who leveled false allegations against appellant only for the satisfaction of his boss.

- i) That revenge to the compliant against the department high ups, by the appellant the whole senior departmental officer are malafidely grabbing the appellant in different allegations which are against the facts and laws one in them is a censure and recovery punishment awarded by respondent No.2 against which appeal No. 34/18 titled as Haq Nawaz V/s Govt. of KPK is also pending adjudication before this Honourable Tribunal. Copy of the order No. 265-67 dated 07/01/2017 as attached as Annexure "P" and a show cause notice against the appellant dated 20/09/2019 bearing No. 10399 from

the office of respondent No. 2 when appellant was on medical leave and duly informed the seniors by not considering the report of doctor. Copy of the show cause notice alongwith reply and the relevant documents/ medical certificate are annexed as Annexure "P-I".

- j) That malafide of the respondents is clear from the pay statement of the appellant for the month of July, 2019 till date, the deduction from the salary against the impugned order even not waiting for appeal by the appellant. Copy of the monthly pay slip for the months of July, 2019 to September 2019 are annexed as Annexure "Q".

It is therefore, humbly prayed that on acceptance of the instant appeal the impugned notification may kindly be declared as null and void and consequently appellant be exonerated from the charges. Any other relief which this Honourable Tribunal may deemed appropriate and

13-14-

fit in the circumstances of the case may kindly be granted to the appellant.

**INTERIM RELIEF:-**

It is further prayer that during the pendency of instant appeal the respondents may kindly be directed not to effect that recovery through the impugned notification till the final decision of instant appeal.

Dated: \_\_\_\_\_/2019

Through

  
...APPELLANT

  
(KHALID RABBANI)

Advocate High Court, Abbottabad

**VERIFICATION:-**

Verified on oath that the contents of forgoing service appeal are true and correct to the best of our knowledge and belief and nothing has been concealed therein from this Honourable Court.

  
...APPELLANT

15

**BEFORE THE HONOURABLE KHYBER PAKHTUNKHWA  
SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR**

Service Appeal No. \_\_\_\_\_ -A/2019

Haq Nawaz PSHT, GPS Jandar Dhaki, Circle Boi, Tehsil & District  
Abbottabad.

**...APPELLANT**

**VERSUS**

Director Education Elementary & Secondary Education Khyber  
Pakhtunkhwa, Peshawar & others.

**...RESPONDENTS**

**SERVICE APPEAL**

**AFFIDAVIT**

I, Haq Nawaz PSHT, GPS Jandar Dhaki, Circle Boi, Tehsil & District  
Abbottabad, do hereby solemnly affirm and declare that the contents of  
foregoing appeal are true and correct to the best of my knowledge and belief  
and nothing has been concealed therein from this Honourable Court.



*[Handwritten signature]*

**DEPONENT**



مستند

مدنی کی جاتی ہے کہ گورنمنٹ ہائر سکول  
نذر پورہ کی پوسٹل گنٹ کا حصہ ہے  
چارڈ پولی اور غیرہ کا نام موقع پر دیکھا گیا  
و کام ہوا ہے وہ تسلی بخش ہے۔ اور کسی  
قسم کی تردید نہ ہے۔

Abdul Hameed Qureshi  
NAZIM VIC Kukmang  
VIC Kukmang T/D Abbottabad  
A.Hameed

مدنی کی جاتی ہے کہ عنوان بالا بیان درست ہے۔ جسکی میں تاہم تردید  
رہا ہوں۔

Mohammad Javed  
Naib Nazim  
VIC Kukmang, Abbottabad

It is verified that the above mentioned  
statement of Nazim village Council is  
correct and I endorse it

M. Hanif  
11/12/2016

M. Hanif Abbasi  
Member Tehsil Council  
Abbottabad

ATTESTED



# لاگ بک (حصہ دوم)

-33-

clearance

PTC Funds

سرٹیفکیٹ برائے

پتھریل فنڈز

لقدویاتی طاق کے مالک، 20,000 روپے PTC فنڈز کی تفصیل  
اس طرح ہے۔ اور ان فنڈز کی صفحہ کوئی سہا/اصل رقم آئی ہے

کل نکوائے سے پیسے = 20,000 روپے

افراہٹ: جن مندرجہ ذیل:

5620 - w

150 - w

130 - w

800 - w

کل افراہٹ: = 8300 روپے

بقیہ پتھریل فنڈز: = 9160 روپے

کل = 17460

20,000 - 17460 روپے = 2540 روپے  
پتھریل فنڈز کے مالک کے پاس

افراہٹ PTC فنڈز کی تفصیل دیکھ کر اور پتھریل فنڈز سے

صفحہ سہا سے کام لینی چاہیے۔

Head Teacher  
GPS Jandar Daki  
Abbottabad

-NIE-

پتھریل فنڈز PTC 9-3227724-13101

سٹیٹسٹریٹ سہا

(1) محمد شریف

(2) سہا

Head Teacher  
GPS Jandar Daki  
Abbottabad



ATTESTED

2018-12-20

دسمبر 2018

احمد سمنبر 11

تاریخ احمد سمنبر : 20.12.2018

زیر اہانت : محمد عظیم خان پیر سمنبر PTC

ایجنڈا : شراذاد شہزاد بحالی Dormant اکاؤنٹ سمنبر

3092223123 . 995 سمنبر ڈیفنس سرائی

کارروائی احمد سمنبر :

1- محمد عظیم خان پیر سمنبر PTC

2- شہزاد شہزاد پیر سمنبر PTC

3- شہزاد شہزاد پیر سمنبر PTC

4- امیر علی خان پیر سمنبر PTC

5- شہزاد شہزاد پیر سمنبر PTC

6- عبدالعزیز خان پیر سمنبر PTC

احمد سمنبر کا آغاز ہونے سے پہلے سمنبر کے تمام اکاؤنٹس

موجودہ وقت تک سمنبر PTC کے عظیم خان پیر سمنبر

سمنبر (پیر سمنبر) کے ساتھ ساتھ سمنبر کے تمام اکاؤنٹس

تعمیراتی اور لاٹھیاں حاصل کرنے کے لئے 22 دسمبر سے

سمنبر کے تمام اکاؤنٹس پر سمنبر کے تمام اکاؤنٹس

سمنبر کے تمام اکاؤنٹس پر سمنبر کے تمام اکاؤنٹس

اکاؤنٹس کی بحالی کے لئے سمنبر کے تمام اکاؤنٹس

کی تبدیلی کر دینا ہے۔

PTC

G. P S  
Abbottabad

گروٹم PTC سکول پنڈا کی باقی امور کی طرح بند رہے  
البتہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ لہذا اس میں 12 دیکھ  
اکاؤنٹ کی تبدیلی ہو گئی ہے۔ اور Demand  
اکاؤنٹ کو یہ حال بنا دیا گیا۔

پہلے اس اکاؤنٹ سے 17<sup>58</sup> کو کنڈیشنل گرانٹ برائے  
گروپ لیٹر میں 160000 روپے آئے تھے۔ اس کے علاوہ  
مورچہ 4<sup>57</sup> کو بھی کنڈیشنل گرانٹ برائے کیم پائپ لائن  
میلے = 70000 روپے آئے ہیں۔

پہلے اس کے علاوہ لیٹر سکول پنڈا کی مدد میں مورچہ 26<sup>4</sup>  
140000 روپے آئے تھے۔ اس کے علاوہ 18<sup>57</sup> کو  
میلے = 10 ہزار روپے اور 16<sup>7</sup> کو 15 ہزار روپے  
آئے تھے۔ اس وقت اس اکاؤنٹ میں کل رقم  
یعنی مورچہ 19<sup>51</sup> تک میلے 274073 روپے ہیں۔

پہلے سائفا کنڈیشنل گرانٹ جو چار دواری کی مدد میں آئی  
تھی۔ یہ پٹی پٹی ٹرانزاکشن ہے۔ PTC سے مل کر خرچ کی گئی ہے۔  
موقع پر کام موجود ہے۔ اور اس کی غرض ہے چوتھے ورہ  
مقرر مقامی تھے۔ سز دوروں کی رہائش تھی۔ انکو  
سے ٹینا لے کر تھوڑے بہتین بسنے کی صورت ہے۔  
مدرم تعاون کی وجہ سے دوبارہ (نئے) نظام



2018

Statement of Bank of Pakistan

2019

1		اجلاس من غیر 12:
2		تاریخ اجلاس: 10-04-2019
3		زیر صدارت: محمد منیر خان چترسین
4		ایجنڈا: داخلہ
5		کارروائی اجلاس:
6		آج سیکول ہذا میں جے پی سی کا اجلاس منعقد ہوا
7		جس کی صدارت چترسین جے پی سی نے کی۔
8		ازان بعد سیکریٹری سیکول مقام نواز نے
9		سابقہ اجلاس منعقدہ 12/2018ء کی کارروائی
10		پڑھ کر سنائی اور توثیق حاصل کی۔
11		جس پر اجلاس کے سال کے داخلہ
12		سلسلہ میں کیا، چترسین نے باقاعدگی سے
13		اور انہوں نے اس وقت تقسیم کی اور نیشنل
14		آغاز کیا۔
15		تقریب سے دو بجوں سے داخل کا شروع ہوا۔
16		سول میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے
17		کو چترسین نے نظر انعام دیا۔

2018

Complimentary Bank of Pakistan  
has ended using  
count Statement

Town:  
District: ABBOTABAD  
State: KH. PAKHTOON  
-KISTAN

Handwritten notes in Urdu script, including the word "کامیابی" (Success) and "میں" (In).

1. کامیابی میں
2. کامیابی میں
3. کامیابی میں
4. کامیابی میں
5. کامیابی میں

IMU-  
27/5/19  
?

Chairman P.T.C  
P.S.G/D...  
Abbottabad

Teacher  
Mandar Dakl  
Abbottabad

Handwritten signature and notes in Urdu script.



اجلاس میں 2019 :-

اجلاس نمبر: 13

تاریخ اجلاس: 04-05-2019

نزیب احمد رت :- امیرین لابی

ایکٹہ 1 :-

1- فریڈ ہارہ مسلمان سکول PTC قندھار

2- لغمان اسپتال

3- قلعہ شہرہ

4- حاجی سردار حسین / قلعہ 4

کارروائی اجلاس :-

1- ج کا اجلاس چیئرمین کی عدم

حضور کی وجہ سے علیہ PTC امیرین

کی جگہ سے کیا

1- سربراہان مہارت حوالہ سے PTC

قندھار سے مسلمان اسکول

کی کارروائی کی جائے گی

کی کارروائی کی جائے گی

Head Teacher  
GPS Jander Dakt  
Abbotabad.

امیرین لابی  
نزیب احمد رت  
امیرین لابی

نزیب احمد رت  
امیرین لابی

Chairman P.T.C.  
P.S. G/Dhak  
Abbotabad



میں ۱۵۱۲

اللہ بیان کے وسیلے سے جس کی مثال اللہ نے  
میں بیان کی ہے اس کے ساتھ سے نقل ہو گیا  
اس کی صورت میں ہو گیا ہے۔

۴۔ عامی مدرسین / طلباء  
IND کی رپورٹ کے مطابق عامی  
مدرسوں کی تعداد ہے اور اسے

میں لکھا ہے کہ اس کا  
اللہ طلباء کی صورت سے اس کی  
ہے اس کی رپورٹ کے ساتھ ہے اور اسے

اس کی رپورٹ کے ساتھ ہے اور اسے  
اس کی رپورٹ کے ساتھ ہے اور اسے  
اس کی رپورٹ کے ساتھ ہے اور اسے

اس کی رپورٹ کے ساتھ ہے اور اسے  
اس کی رپورٹ کے ساتھ ہے اور اسے  
اس کی رپورٹ کے ساتھ ہے اور اسے

اس کی رپورٹ کے ساتھ ہے اور اسے

Shahbaz  
Abdullah Daki  
Abbottabad

Shahbaz P. T.  
G. P. S. Abbottabad

Handwritten signature

فیصلہ حیات و ذمہ داریاں :-

۱- حریزیرگی کی جانچ پر نکال دینا

بڑے ضرورت کے سامان اور یہ سب چیزیں  
اور اور جو کوئی پرانے سامان جو جس کا  
کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ ان کو بیک وقت  
فائدہ مند جانچ کر نکال دینا۔  
اس کے لیے تمام کاموں کو بیک وقت  
ذمہ داریاں

ٹھانف اور طبعاً حافی :-

بہت سی کاموں کے لیے  
بہت سے کاموں کے لیے  
بہت سے کاموں کے لیے  
بہت سے کاموں کے لیے

بہت سے کاموں کے لیے

بہت سے کاموں کے لیے

بہت سے کاموں کے لیے

بہت سے کاموں کے لیے

بہت سے کاموں کے لیے

بہت سے کاموں کے لیے

بہت سے کاموں کے لیے

بہت سے کاموں کے لیے

بہت سے کاموں کے لیے

بہت سے کاموں کے لیے

بہت سے کاموں کے لیے

Teacher  
Dakki  
Makad

Shirman  
Aho

Handwritten notes and signatures on the right side of the page.

جی ڈی سرگودھا اسکول اور کالج

PTC

اللہ تعالیٰ ہم سب کا حافی و ناصر ہو

فوزانہ سرگودھا

امیرین جی ڈی سرگودھا

Head Teacher  
GPS Jandar Daki  
Abbottabad

Chairman P.T.  
G. P.S G/Dhaki  
Abbottabad

Amir

فوزانہ جی ڈی سرگودھا

Amir

فوزانہ

Amir

امیرین جی ڈی سرگودھا

Amir

عبدالرشید

Uman (IMU)

Chairman P.T.  
G. P.S G/Dhaki  
Abbottabad

Chairman P.T.  
G. P.S G/Dhaki  
Abbottabad

Head Teacher  
GPS Jandar Daki  
Abbottabad

PTC

Head Teacher  
GPS Jandar Daki  
Abbottabad

Amir

اہل اس میں منبر 14

تاریخ اجلاس: 11-06-2019

نیم اجلاس:

ایجنڈا:

1. پتھال و جیک کے بارے میں سامان پتھال

2. تیلے جانور

3. جانور کے بارے میں سامان پتھال

کارروائی اجلاس:

آج کا 11 کو پتھال کا اجلاس ہوا۔

اس میں پتھال کے سامان پتھال کے بارے میں

پتھال کے بارے میں سامان پتھال کے بارے میں

پتھال کے بارے میں سامان پتھال کے بارے میں

پتھال کے بارے میں سامان پتھال کے بارے میں

پتھال کے بارے میں سامان پتھال کے بارے میں

پتھال کے بارے میں سامان پتھال کے بارے میں

پتھال کے بارے میں سامان پتھال کے بارے میں

پتھال کے بارے میں سامان پتھال کے بارے میں

پتھال کے بارے میں سامان پتھال کے بارے میں

پتھال کے بارے میں سامان پتھال کے بارے میں



5- عمر علیہ السلام  
اسی سے ہمیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہ  
کاش اگر ادا کرتے تو ہرگز نہیں ہوتے  
تو تھے اور جو ہرگز نہیں ہوتے  
لیکن دنیا کی چیزیں  
اور اس کے لئے ہرگز نہیں ہوتے  
ہرگز نہیں ہوتے اور ہرگز نہیں ہوتے

PTC  
Jandari Dak  
Abbottabad

PTC  
G. P. S. G. Dham  
Abbottabad

Abbas

22/08  
2019

EMA. Adal Abbas  
muja AL Abbas



PDF Complete

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Bank of Pakistan Account Statement

-32-

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expansive

H to GPS Dhake

Town:  
District:  
City: ABBOTABAD  
Province/State: KH.PAKHTOON  
Country: PAKISTAN

Product Name:  
CIF No: 7182021  
Account No: 3092222122  
IBAN: PK48NBPA1376003092222122

Postal Code:

Branch Code/Name: 1376 Dhani (Bio) Branch

Region Name: Abbotabad

Statement of Account

Statement Printing Date: 20-Jan-2016

B/F Balance: 196.90

From: 01-Jan-2015 To: 20-Jan-2016

S. No.	Date	Particulars	Instno	Memo	Debit	Credit	Balance
							210.90
1	09-Jan-2015	PROFIT/LOSS	21561	01	0.00	14.00	209.50
2	09-Jan-2015	W.H.TAX	21562	01	1.40	0.00	4,209.50
3	28-Jan-2015	TRANSFER	10037	28	0.00	4,000.00	209.50
4	16-Mar-2015	CASH	398636	16	4,000.00	0.00	663,609.50
5	25-Jun-2015	TRANSFER	10033	25	0.00	663,600.00	664,334.50
6	10-Jul-2015	PROFIT/LOSS	21560	01	0.00	525.00	664,282.00
7	10-Jul-2015	W.H.TAX	21561	01	52.50	0.00	654,282.00
8	28-Aug-2015	CASH	398638	28	10,000.00 ✓	0.00	604,782.00
9	15-Sep-2015	CASH	398639	15	49,500.00 ✓	0.00	554,782.00
10	28-Sep-2015	CASH	398640	28	50,000.00 ✓	0.00	554,712.00
11	07-Oct-2015	DR VOUCHER	10005	07	70.00	0.00	504,712.00
12	07-Oct-2015	CASH	804101	07	50,000.00 ✓	0.00	454,712.00
13	16-Oct-2015	CASH	804103	16	50,000.00 ✓	0.00	404,712.00
14	19-Oct-2015	CASH	804102	19	50,000.00 ✓	0.00	304,712.00
15	24-Nov-2015	CASH WITHDRAWAL	804104		100,000.00 ✓	0.00	254,712.00
16	27-Nov-2015	CASH WITHDRAWAL	804105		50,000.00 ✓	0.00	712.00
17	04-Jan-2016	CASH WITHDRAWAL	804107		254,000.00 ✓	0.00	

Total 4 Credit transactions of amount: 668,139.00  
Total 13 Debit transactions of amount: 667,623.90

This is a computer generated statement and does not require any signature

~~CONFIDENTIAL~~

~~CONFIDENTIAL~~

No. 351 / P TC/ AF-II

Dated: A'bad the 12/12/1990

PROCLAMATION

As directed by the Honourable Federal Minister for Kashmir Affairs and Northern Affairs Govt. of Pakistan Islamabad the following candidates are hereby appointed in Maktab Primary school as noted against their name in P.C-5 @ Rs. 700/- plus usual allowances permissible under the rules in the interest of public service with effect from the date of their taking over charge.

S.No.	Name/Father's name of candidate/address	School where appointed	Remarks
1.	Md Nazam U/D Durriaman W/O B.I. Abhattahai	Maktab School Germal	against vacant
2.	Muhammad Khan U/D Muhammad Juleman W/O Ghazal-E.1	Maktab School Nawshera A'bad	

CANDIDATES:-

1. Charge report should be submitted to all concerned.
2. The appointment made under all services conditions laid down by the Government.
3. Age and Health certificate may be nucleus from the Medical Superintendent: DHO Hospital Abhattahai.

26083-86

SECRETARY (HEALTH)  
MINISTRY OF HEALTH (M.A.H.)  
ISLAMABAD

Encl: N/A

- Copy to the:-
1. Sub-Divisional Education Officer (M) Abhattahai.
  - 2-3. Candidate concerned.
  4. Honourable Minister for Kashmir aff and Northern Affairs Government of Pakistan Isl.

First appointment order.

BY: DIRECTOR OF EDUCATION (M.A.H.)  
ISLAMABAD

-34-

OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER (MALE) ABBOTTABAD

OFFICE ORDER

This office order issued vide Endst. No. 1511-18, dated 28.2.2013 regarding promotion of PSI (B-12) to SPST (B-14) & held in abeyance under Endst. No. 1557-65 dated 05.3.2013 is hereby restored under usual terms & conditions in the interest of public service with immediate effect.


DISTRICT EDUCATION OFFICER (MALE)  
ABBOTTABAD.

Endst: No 3654-60/EB

Dated 18.5.2013

Copy forwarded for information to:

1. Secretary to Government of Khyber Pakhtunkhwa, I&SED Peshawar.
2. Director Elementary & Secondary Education, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
3. Deputy District Education Officer (M) Abbottabad.
4. District Comptroller of Accounts Abbottabad.
5. Sub Divisional Education Officer (M) Abbottabad.
6. All the ADOs (Circles) Abbottabad.
7. B&AO Local Office.
8. All concerned.

  
18/5/2013.  
DY: DISTRICT EDUCATION OFFICER (M)  
ABBOTTABAD

**CHAND STATIONERY, PHOTOSTATE & SPORTS**  
**NEAR BOY DEGREE COLLEGE NO.1**  
**LINK ROAD ABBOTTABAD**  
**QAMAR U. ZAMAN # 0333-5022422**

6-10-5

501

**&SPORTS**  
Near Boy Degree College No.1  
Link Road Abbottabad  
Qamar u Zaman # 0333-5022422

**OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER (MALE) ABBOTTABAD**

**OFFICE ORDER**

Consequent upon the recommendations of the departmental promotion committee and in pursuance of the Government of Khyber Pakhtunkhwa Elementary and Secondary Education Notification No SO(B&A)/1-8/E&SE/2012 dated 11/7/2012 and Finance Department Endorsement No SO(FR)/FD/10-22(E)/2010 dated 16/7/2012, the following Male PST,s BPS-12 are hereby promoted to the post of Senior Primary School teacher BPS-14( Rs.8000-610-26300) Plus usual allowances as admissible under the rules on the regular basis under the existing recruitment policy of the Provincial Govt: Notified vide No SO(PE)14-5/SSRC/Meeting/2012/teaching cadre dated 13/11/2012 on the terms and conditions given bellow with immediate effect in the interest of public service.

Total No. of PST (M) Posts	2622
No. of Senior Primary School Teacher as per breakup	754
Share of promotion of Senior Primary School Teacher BPS-14 as per breakup	754
Net to be promoted as Senior Primary School Teacher BPS-14	570
No of Deferred Cases due to reasons noted in working papers	007

**Chand Stationery, Photostate  
& Sports**  
Near Boy Degree College No.1  
Link Road Abbottabad  
Qamar u Zaman # 0333-5022422

S.No	S/list NO	Name of Teacher	Father Name	School	Circle	Promoted as SPST BPS 14 and posted as under	Posting Circle
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1389	Ali Akbar	Mir Akbar Khan	GPS Nagri Payeen	Hajja Gali	GPS Nagri Payeen	Hajja Gali
2	1391	Muhammad Shakeel	KHAUL UR-REMAN	GPS Bandi Maira	NATHIAGALI	GPS Bandi Maira	Nathia Gali
3	1392	Hafeez Ahmad Abbasi	Aftab Ahmad Abbasi	GPS Rahi	Lora	GPS Chankot	Lora
4	1394	Aziz-ur-Rehman	Bafoo Khan	GPS Kurli	Birote	GPS Kurli	Birote
5	1395	Shabbir Ahmed	Nasir-ur-Rehman	GMPS Dhera Rajwala	Dhamtour	GPS Nagakki	Dhamtour
6	1396	M. Wahaeed	S. M. Aslam	GPS GEAN	NATHIAGALI	GPS Dakhan Nalocha	Nathia Gali
7	1398	NAZ AHMED	MUHAMMAD NAWAZ	GPS Bandi Pir Khan	Q/Abad	GPS Bandi Pir Khan	Q/Abad
8	1401	Shoukat Ali	M. Ajab	GPS Chanali	Lora	GPS Chanali	Lora
9	1402	Muhammad Ashraf	ALI ZAMAN	GPS Chahan	NATHIAGALI	GPS Chahan	Nathia Gali
10	1403	<del>Ali Akbar</del>	<del>Mir Akbar Khan</del>	<del>GPS Nagri Payeen</del>	<del>Hajja Gali</del>	<del>GPS Nagri Payeen</del>	<del>Hajja Gali</del>
11	1406	JEHANZEB	M SULEMAN	GPS Nathi Gali	NATHIAGALI	GPS Nathi Gali	Nathia Gali
12	1407	Muhs Javed	Mubahat Khan	GPS Kurli	Birote	GPS Kurli	Birote
13	1408	Siraj-Ud-Din	Taj Muhammad	GPS BATHARA	NATHIAGALI	GPS Bathara	Nathia Gali
14	1409	Haroon-Ul-Hashid	M. Farooq	GPS Bhuraj	Sherwan	GPS Bhuraj	Sherwan
15	1410	M Zahid Awan	Abdul Jabir Awan	GPS Mujath	Havelian	GPS Mujath	Havelian
16	1414	Arif Hussain	M. Akram	GPS Sehar	BOI	GPS Sehar	BOI
17	1415	Sajjad Ahmed	M. Anwer	GPS Satara	Hajja Gali	GPS Satara	Hajja Gali
18	1416	M. NASEER	M. KHURSHID	GPS BANDI PHULLAN	Sherwan	GPS Bandi Phullan	Sherwan

D7 DISTRICT EDUCATION OFFICER (MALE) ABBOTTABAD



OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER (M) ABBOTTABAD



No. 711 /10709 /P&D

Dated: 25/1/2016

0992-9310102, 0992-330131  
EDO.Education.Atd@gmail.com

The Sub Divisional Education Officer  
Male Abbottabad

Subject: SHOW CAUSE NOTICE

Memo:

Show cause notices in respect of the following teachers / officials are attached herewith. You are directed to serve the same to them and return one copy to this office as a token of receipt.

1. PSHT GPS JANDAR DAKHI(EMIS ID 10709)

District Education Officer (M)  
Abbottabad

ASDEO BOI

For function  
M/A Piz  
for  
26/1/2016

756  
26/1/16

ShowCause.doc

ATTESTED



No. 711 /10709/P&T

Dated: 25/1/2015

58

0992-9310102, 0992-330131

EDO.Education.Atd@gmail.com

SHOW CAUSE NOTICE

I Zia ud Din District Education Male Abbottabad as a competent authority under the Khyber Pakhtunkhwa Govt. Servants (Efficiency & Discipline) Rules, 2011, do hereby serve show cause notice upon Mr. PSHT GPS JANDAR DAKHI (EMIS Code 10709) as follows.

1. You have drawn the amount from PTC account but your constructional work of Boundary wall has not been completed yet.
2. In exercise of the powers conferred by the Khyber Pakhtunkhwa Govt. Servant (E&D) Rules, 2011, the competent authority is hereby pleased to dispense with the conduct of formal enquiry and serve you with the instant show cause notice regarding your inefficiency, corruption and misconduct with the direction to submit your defense in writing within 15 days of the issuance of this notice as to why major penalty of Rule 4(b) of the said rules should not be imposed upon you and also intimate whether you desire to be heard in person.
3. In case you failed to submit your reply within stipulated period, it will be presumed that you have no defense to offer and an ex parte decision will be taken against you.

*[Handwritten Signature]*  
Competent Authority

PSHT  
GPS JANDAR DAKHI (EMIS ID 10709)


*[Handwritten Signature]*  
ATTESTED

DISTRICT EDUCATION OFFICER (M)  
ABBOTTABAD

56-

SUBJECT: REPLY TO SHOW CAUSE NOTICE.

1. In pursuance of show cause notice served upon me vide DEO Office letter No. 711/10709/P&D, dated: 25.01.2016, I am pleased to submit the following few lines for your kind consideration and favourable response on merit to dispose off the instant controversy.
2. That, I have bestowed about 25 years of dedicated, meritorious and blotless services to the entire satisfaction of my superiors. Hence, the charges leveled in the show cause notice are not in line with my service record.
3. That, the amount received for constructed work was honestly and properly dispensed by the petitioner and the Chairman who was also the member of committee along with petitioner, who has also distributed the amount so issued in this contract to the persons/labourers and other contractors as well as in shape of material bills. **(Progress file of said constructional work along with Photos is annexed as Annexure "A")**.
4. That, PTC consists of two members and both have been given an equal responsibility for carrying out the task of constructional work of the boundary wall. Each and every transaction has been passed under the signatures of both of the members of the committee jointly. **(Account statement is annexed as Annexure "B")**.

  
ATTESTED



- 5. That, in view of above, the major penalty under rule 4(b) E&D Rules 2011 is not applicable on the petitioner.
- 6. That, if the competent authority is still not satisfied, then, would be a great opportunity for the petitioner to be heard in person to explain the factual position on the subject matter in the light of Para 2 of the show cause notice.
- 7. That, the petitioner seeks the legal action against the person who leveled false and baseless accusations on the petitioner.

Foregoing in view, it is most humbly requested that the petitioner may please be exonerated from all the false baseless, fanciful and unjust accusations/charges leveled against him.

Dated: 3/2/2016


*[Signature]*  
 Haq Nawaz, PSHT  
 GPS JANDAR DAKHLI,  
 EMIS Code: 10709  
 .....Petitioner

*[Signature]*  
 REQUESTED

-41-

49

OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER (M) ABBOTTABAD



No. 7578 /10709 /P&D

Dated: 29/9/2016

0992-9310102, 0992-330131  
EDO.Education.Atd@gmail.com

The Sub Divisional Education Officer  
Male Abbottabad

Subject: FINAL SHOW CAUSE NOTICE

Memo:

Show cause notice in respect of Mr. Haq Nawaz PSHT GPS JANDAR DAKHI(EMIS ID 10709) Circle BOI is attached herewith. You are directed to serve the same upon him and return one copy to this office as a token of receipt

*[Handwritten Signature]*  
District Education Officer (M)  
Abbottabad

1328  
30/9/16


AB-11 with PRS  
*[Handwritten Signature]*  
30/9

Office of the District Education Officer.docx Address: DEO (M) Education Office Near DHO Hospital Kalia Abbottabad

*[Handwritten Signature]*  
ATTESTED



OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER (M) ABBOTTABAD



No. 7578 /10709/P&D

Dated: 29/9/2016

0992-9310102, 0992-330131

EDO.Education.Atd@gmail.com

FINAL SHOW CAUSE NOTICE

I Zia ud Din District Education Male Abbottabad as a competent authority under the Khyber Pakhtunkhwa Govt. Servants (Efficiency & Discipline) Rules, 2011, do here by serve show cause notice upon Mr. Haq Nawaz PSHT GPS JANDAR DAKHI (EMIS Code 10709) as follows.

1. You are involved in embezzlement / corruption of Rs. 300,000 in PTC funds of your school as per findings & recommendations of inquiry report submitted by SDEO (M) Abbottabad vide Memo No. 994 dated 02-06-2016.
2. In exercise of the powers conferred by the Khyber Pakhtunkhwa Govt. Servant (E&D) Rules, 2011, the competent authority is hereby pleased to serve you with the instant show cause notice regarding your inefficiency, corruption and misconduct with the direction to submit your defense in writing within 15 days of the issuance of this notice as to why major penalty of Rule 4(b) of the said rules should not be imposed upon you and also intimate whether you desire to be heard in person.
3. In case you failed to submit your reply with in stipulated period, it will presumed that you have no defense to offer and an ex parte decision will be taken against you.

*[Signature]*  
Competent Authority

Haq Nawaz  
PSHT  
GPS JANDAR DAKHI (EMIS ID 10709)

*Case R 4-b - 30/9/2016*  
*تین روز*

Office of the District Education Officer.docx Address: DEO (M) Education Office Near DHO Hospital Kehal Abbottabad

*[Signature]*  
ATTESTED

251-

To,

The District Education Officer (Male),  
Abbottabad.

Subject: REPLY TO FINAL SHOW CAUSE NOTICE DATED 29/09/2016

In response to final Show Cause Notice No. 75 78/100/09/PS dated 29/09/2016, the following submissions are being submitted before you for your kind consideration and favourable response and with the prayer that I may kindly be exonerated from frivolous and careless charges:-


1. That, I served the department for 25 years to the entire satisfaction of my superiors and my conscience and I never charged for any misconduct or corruption.
2. That, in 2015 an amount of Rs. 664,000/- for construction of Boundary Wall of GPS Jandar Dhakki (Boi), Abbottabd was sent into joint Account No: 309222122 of NBP Dhani Branch (Boi) and PTC of GPS Jandar Dhakki has been given the responsibility of construction.
3. That, I started construction work of Boundary Wall with the approval and consultation of Chairman PTC and spent the said amount with diligence and honesty, Chairman PTC signed the Cheques in different dates however, Community had not shown any interest during the construction of Boundary wall and I arranged all the necessities of labours at my own cost.
4. That, later on I was served a Show Cause Notice on the basis of a fake and groundless application and an inquiry initiated against me In this regard, wherein I submitted my reply and detail statement of expenses alongwith photographs of work done.


*[Handwritten Signature]*  
ATTESTED

5. That no impartial inquiry was conducted against me in accordance with law and the whole proceedings were carried out illegally and without jurisdiction.
6. That, neither I embezzled a single penny nor made any corruption in the construction work and I spent the Public Money with honesty and in accordance with my prudence. (I can produce all the relevant record for the perusal of Competent Authority if required).
7. That, inquiry initiated against me and show cause notice served upon me are totally illegal, unjustified and without jurisdiction hence, liable to be turned down / set aside.

It is therefore, very humbly prayed that inquiry proceedings initiated against me may graciously be withdrawn and I be exonerated from charges, and opportunity of personal hearing be given to me.

Dated: 13/10/2016

  
HAQ NAWAZ (PSHT)  
GPS Jandar Dhakki (Boi)  
Abbottabad.

  
ATTESTED

خدمت جناب ڈائریکٹر صاحب ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن، خیبر پختونخوا، پشاور

11/03/2017 -45-  
جناب عالی!

حق نواز GPS، PSHT جنڈر ڈھکی، سرکل بوٹی، تحصیل دضلع، ایبٹ آباد۔

اپیلانٹ

محکمانہ اپیل / Representation بمراد کالعدم فرمائے جانے حکم نمبری 2508/10

محرره 09/03/2017 از دفتر DEO صاحب مردانہ، ایبٹ آباد۔

جناب عالی! موجبات اپیل ذیل عرض ہیں۔


1- یہ کہ اپیلانٹ محکمہ تعلیم میں بطور مدرس 13/12/1990 کو BPS-05 میں بھرتی ہوا۔ بعد ازاں BPS-07، BPS-09، BPS-12 اور BPS-14 میں ترقی پائی۔

2- یہ کہ اپیلانٹ کی مورخہ 26/12/2013 کو BPS-15 میں ریگولر اور باقاعدہ DPC کی منظوری پر ترقی ہوئی نیز اپیلانٹ کی 26 سالہ ملازمت کا ریکارڈ بے داغ ہے اور دوران ملازمت اعلیٰ افسران کی رپورٹ ہائے کے مطابق اپیلانٹ کی کارکردگی Good اور Very Good ہے۔ فوٹو نقل لاگ بک لف ہے۔

3- یہ کہ محکمہ تعلیم میں حکومت خیبر پختونخوا کی خصوصی ریجسٹری کے مطابق اصلاحات کی گئیں اور ملکی سلامتی و سیکورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے محکمہ تعلیم کو خیبر پختونخوا حکومت نے بجٹ منظور فرما کر پرائمری و دیگر سکول ہائے کی Boundary Walls و دیگر ضروریات کو پورا کرنے کی غرض سے فنڈز ہائے عنایت کئے۔

4- یہ کہ اپیلانٹ گورنمنٹ پرائمری سکول جنڈر ڈھکی یونین کونسل ککنگ ضلع ایبٹ آباد میں تعینات تھا کہ سکول کی چار دیواری کے لئے فنڈ مختص ہوا جس کو محض PTC کے ذریعے سے لوکل نمائندگان کے زیر

نگرانی تصرف کرنا کیا۔



ATTESTED

5- یہ کہ اپیلانٹ نے مطابق حالات و واقعات موقع و تحت رضاد مرضی ممبران و چیئرمین PTC موقع پر چار دیواری کا کام زیر نگرانی لوکل نمائندہ گان شروع کر کے فنڈز مہیا کر دیا استعمال کیا۔

6- یہ کہ تعمیراتی کام کے دوران PTC کے چیئرمین و دیگر علاقائی نمائندہ گان کے علاوہ آبادی اور بہ کے لوگوں کی دلچسپی کے مطابق احسن طریقے سے کام کروایا گیا جس کی تحریری رپورٹ ہائے لی گئیں۔  
فوٹو نقل رپورٹ ہائے لف ہیں۔

7- یہ کہ مقامی چیئرمین کی بدینتی و بددیانتی کی بنیاد پر علاقہ کے چند لوگوں کے سیاسی مقاصد کو پورا کرنے کی خاطر اپیلانٹ کے خلاف کالعدم و باطل انکوائری کے احکامات بذریعہ DEO صاحب دیے گئے۔

8- یہ کہ نہ تو انکوائری بر موقع ٹھیک طریقے سے کی گئی اور نہ ہی اپیلانٹ کو شنوائی کا موقع دیا گیا بلکہ ایک من گھڑت دبے بنیاد یعنی بر بدینتی و برخلاف حقائق انکوائری منعقد کر کے DEO صاحب نے اپیلانٹ کو موجب سزا قرار دے کر تحت حکم نمبری 10-2508 مورخہ 02/03/2017 اپیلانٹ کے خلاف مبلغ 03 لاکھ روپے Recovery کے علاوہ اپیلانٹ کو BPS-15 سے BPS-14 کی پوسٹ پر Reduction کی گئی جو کہ ناقابل بحالی و قابل مستردگی ہوتے ہوئے حقوق اپیلانٹ پر کالعدم و باطل تحت ذیل امور ہے۔ فوٹو نقل حکم لف ہے۔

”الف“ یہ کہ حکم DEO صاحب خلاف حقائق، خلاف قانون، خلاف روئیداد یعنی بر بدینتی اور محض قیاسی دلائل پر مبنی ہوتے ہوئے ناقابل بحالی و قابل مستردگی ہے۔

”ب“ یہ کہ حکم عنوان بالا میں پیرا گراف نمبر 2 سراسر غلط ہے کیونکہ اس میں لکھا گیا ہے کہ مورخہ 03/03/2016 کو ASDEO سرکل کی رپورٹ پر آرڈر نمبر 3824 تاریخ 14/05/2016 کو انکوائری آفیسر مقرر کیا گیا جس نے چھٹی نمبر 994 مورخہ 02/06/2016 کے تحت 03 لاکھ روپے کی کرپشن کی رپورٹ دی۔ حالانکہ اپیلانٹ نے جنوری 2016 میں کام کی تفصیلی فائل جمع کروادی تھی جبکہ نہ تو تاریخ مشتہرہ اور نہ ہی سال 2016ء کے پورے تعلیمی سال میں ASDEO صاحب نے کوئی وزٹ کیا۔  
فوٹو کا پیاں رجسٹر حاضری لف ہیں۔

*Handwritten signature*  
ATTESTED

یہ کہ سکول لاگ بک میں اور رجسٹر حاضری مدرسین میں انکوائری کے دن ASDEO اور SDEO صاحب کے باقاعدہ دستخط محررہ 10/05/2016 کو ثبت ہیں۔

”ج“ 47

”د“ یہ کہ سکول لاگ بک میں اور رجسٹر حاضری مدرسین میں انکوائری کے دن ASDEO صاحب اور SDEO صاحب کے باقاعدہ دستخط محررہ 10/05/2016 کو ثبت ہیں۔ اور موصوف لاگ بک میں رقم طراز ہیں کہ میں نے 10/05/2016 کو Competent Authority کو انکوائری Submit کر دی گئی ہے جبکہ حکم عنوان بالا کے پیرا گراف نمبر 2 کی آخری لائن میں انکوائری رپورٹ Submit کرنے کی تاریخ 02/06/2016 درج ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انکوائری رپورٹ پہلے Submit ہوئی جو کہ لاگ بک سے ثابت ہے اور انکوائری آفیسر کی تقرری بعد میں ہوئی ہے۔ علاوہ اس کے من مظہر نے PTC فنڈ ز نہایت ایمانداری، دیانت داری کے ساتھ PTC کی مشاورت سے خرچ کیا ہے۔ اور چیئر مین PTC نے چیک تعدادی 9 مختلف تاریخوں میں دستخط کئے ہیں اور NIC کی کاپی لف کی ہے جو کہ بینک میں ریکارڈ موجود ہے اور بینک شیٹ لف درخواست ہذا ہے۔ اس کے علاوہ موصوف نے باقاعدہ تکمیلی شیٹ کیٹ جاری کیا جس پر موصوف کے دستخط اور نشان اٹوٹھا کے علاوہ قومی شناختی کارڈ کی کاپی لف ہے اور موصوف پڑھا لکھا ہے۔ ان کے علاوہ ممبران لوکل کونسل اور ضلع کونسل نے بھی شیٹ کیٹ جاری کیا ہے۔ جو قبل ازیں لف ہے۔

”ز“ یہ کہ دوران کام ASDEO سرکل بوٹی کے علاوہ IMU کا وزٹ بھی ہر ماہ ہوتا رہا نہ تو عوام دیہہ، PTC یا افسران نے کوئی شکایت کی ورنہ اپیلانٹ کام کو بند کر دیتا۔ اسی دوران دسمبر 2015 میں سالانہ وزٹ پر پرنسپل GHS پٹن خورد ہمراہ اپنی ٹیم تشریف لائے جو کہ سکول لاگ بک میں رقم طراز ہیں کہ پانچ لاکھ خرچ ہو گئے ہیں جبکہ کام جاری ہے۔ جبکہ میرے محترم SDEO اور ASDEO صاحبان من مظہر پر تین لاکھ کی کرپشن ثابت کرتے ہیں اور یہ کہ من مظہر نے از خود ایک انجینئر سے وزٹ کرا کے C&W کے ریٹ پر کئے گئے کام کا تخمینہ لگوایا جو کہ -/11,85,710 روپے بنتا ہے۔ رپورٹ کی کاپی لف درخواست ہذا ہے۔

  
ATTESTED



”ر“ یہ کہ حکم عنوان بالا میں پیرا گراف نمبر 3 درست ہے کہ فائنل شو کا ز 29/09/2016 کو جاری ہوا جس کا اپیلانٹ نے باقاعدہ تحریری جواب دیا اور اس پر 13/12/2016 کو پرسنل Hearing بھی ہوئی لیکن اس پرسنل Hearing اور شو کا ز کے ساتھ میں اپیلانٹ کو انکو آئری رپورٹ Submit نہیں کی گئی جو کہ رول 14 (4) (C) کی خلاف ورزی ہے۔ اس پرسنل Hearing کے دوران DEO صاحب کے ہمراہ دفتر میں آفیسرز کا ایک لشکر تھا اور اپیلانٹ پر دباؤ ڈالا گیا کہ اگر اپیلانٹ مبلغ -/30,000 روپے کا مزید کام کرے تو معاملے کو ختم کیا جاسکتا ہے۔ جو کہ جملہ متعلقین کی بدینتی کا مظہر ہے۔

”س“ یہ کہ پہلا شو کا ز نمبر 711 محرمہ 25/01/2016 کو جاری ہوا اور 01 سال 02 ماہ بعد 09/03/2017 کو حکم عنوان بالا میں فیصلہ سنایا گیا جو کہ سروس رولز 14 (7) کی خلاف ورزی ہے۔

”دش“ یہ کہ کنٹریشن کا کام کسی غیر پیشہ ور کو تفویض کرنا قانوناً درست نہیں۔ اگر ایسا کرنا وقت کی ضرورت ہو تو اس سے قبل تربیت دینا ضروری ہے۔ لہذا یہ کنٹریشن رولز 1872 کے 11 اور 12 کی خلاف ورزی ہے۔ تعمیرات ایک الگ شعبہ ہے اور اس کا ایکٹ بھی الگ ہے۔ لہذا اپیلانٹ کے خلاف سروس رولز 4 ABC کا اطلاق درست نہیں ہے اور غیر قانونی ہے۔ علاوہ ازیں نہ تو اپیلانٹ کو اپنے سکول کے لئے 1-PC دیا گیا ہے اور نہ ہی BOQ مہیا کی گئی جس کے تحت تعمیراتی کام عمل میں لائے جاتے ہیں۔ نیز اپیلانٹ نہ تو ماہر تعمیرات ہے اور نہ ہی دانستہ کام کو تھوڑا کرنا، خراب کرنا یا ناپائیدار کرنا سوچ بھی سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کام تفویض کرنے سے پہلے اپیلانٹ کے ساتھ کام کی شرائط، ٹائم پیڑڈ کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا۔

”س“ یہ کہ PTC فنڈز Non Auditable ہے۔ قانوناً اس کا کوئی آڈٹ نہیں کر سکتا۔ کوئی آفیسر اس کے کاغذات مانگنے، دپے یا رو بدل کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ اس کی دیکھ بھال

  
ATTESTED

صرف تھرڈ پارٹی کر سکتی ہے۔ جسے حکومت یعنی سیکرٹری تعلیم مقرر کر سکتا ہے۔ موصوف نے کوئی کمیشن مقرر نہیں کیا۔ لہذا یہ انکوائری غیر قانونی، بدعتی پر مبنی اور خود ساختہ ہے اور بعض افراد کا اللہ بے گناہ لوگوں کو مزادے کر اپنے عیبوں کی پردہ پوشی کر رہے ہیں۔ PTC کے کتابچہ کے صفحہ نمبر 18 پر اصول نمبر (01) ملاحظہ فرمایا جائے جو کہ لف ہے۔

”ض“ یہ کہ اگر ایپلانٹ کرپٹ تھا تو دوران انکوائری دوبارہ ہاتھروم کی مد میں ایپلانٹ کے اکاؤنٹ میں بتاریخ 17/08/2016 کو 1,60,000/- کیوں بھیجا گیا؟ بینک شیٹمنٹ لف ہے۔

”ل“ یہ کہ اہم ترین بات یہ ہے کہ سابق DEO ضیاء الدین صاحب نے ایک Hearing کے دوران گالی گلوچ شروع کر دی اور اپنے ہی دفتر کا ماتحت SDEO بابر بشیر صاحب کو انکوائری آفیسر مقرر کر کے من مظہر کے خلاف مختلف چارجز لگائے۔ یہ کہ اس معاملے میں مزید انکشافات سامنے لائے جائیں گے۔

”م“ یہ کہ آئے روز من مظہر کو مختلف معاملات میں پریشان کیا جا رہا ہے۔ جس کی ایک مثال آرڈر نمبر 67-265 محررہ 07/01/2017 ہے۔ جس میں من مظہر کو غیر قانونی طور پر Censure کیا گیا اور ایک دن کی ریکوری بھی کی گئی محض اس خاطر کہ سائل ہر معاملے میں گلٹی ثابت ہو۔ یہ کہ متذکرہ حکم کی بھی جناب سے ڈائری نمبر 49 اور دائری نمبر 50 مورخہ 24/01/2017 کو حصول حکم امتناعی اور اپیل کی درخواست کی گئی جس پر جناب نے تاحال کوئی فیصلہ صادر نہ فرمایا ہے۔ اس پر عمل غیر قانونی ہے جو کہ رول 17(1) کی خلاف ورزی ہے۔

”ن“ یہ کہ ایپلانٹ کو حکم مذکورہ کی فونو نقل مورخہ 13/03/2017 کو موصول ہوئی جس کے بعد اپیل عنوان دائر کی جا رہی ہے جو کہ اندر میعاد ہے۔ نیز مزید نقاط بوقت بحث با اجازت آنحضورا ٹھائے جائیں گے۔

  
ATTESTED

لہذا مذکورہ بالا عذرات ثبوت تردیدی، شہادت تائیدی کی بناء پر عنوان بالا حکم قابل اخراج ہے۔ اور  
دی امید ہے کہ انصاف پر مبنی فیصلہ بحق سائل صادر فرمایا جائے گا کیونکہ ایک حدیث شریف ہے "ایک ساعت  
انصاف ستر سال کی عبادت سے بہتر ہے۔"

المرقوم: 2017/ 29.03 ایبٹ آباد

.....  
conced

ق نواز، PSHT گورنمنٹ پرائمری سکول چندر ڈھکی، سرکل بوئی، یونین کونسل ککمنگ، تحصیل ضلع، ایبٹ آباد۔۔۔ (اپیلانٹ)  
ساکنہ گاؤں موہری میرا، یونین کونسل بوئی، تحصیل ضلع، ایبٹ آباد۔  
موبائل: 0315-5096452، 0306-5096452

*AB F. Khan*  
ATTESTED

لہذا مذکورہ بالا عذرات ثبوت تردیدی، شہادت تائیدی کی بناء پر عنوان بالا حکم قابل اخراج ہے۔ اور  
یہ امید ہے کہ انصاف پر مبنی فیصلہ بحق سائل صادر فرمایا جائے گا کیونکہ ایک حدیث شریف ہے ”ایک ساعت  
انصاف ستر سال کی عبادت سے بہتر ہے“۔

المرقوم: 2017/ 03 ایبٹ آباد

حق نواز، PSHT گورنمنٹ پرائمری سکول چندر ڈھکی، سرکل بوئی، یونین کونسل ککٹنگ، تحصیل و ضلع، ایبٹ آباد۔۔۔ (ایپلانٹ)  
ساکنہ گاؤں موہری میراہ، یونین کونسل بوئی، تحصیل و ضلع، ایبٹ آباد۔  
موبائل: 0315-5096452، 0306-5096452

*M. G. Khan*  
ATTESTED

بیت جناب ڈائریکٹر صاحب ایلیمنٹری اینڈ سکینڈری ایجوکیشن، خیبر پختونخوا، پشاور

PSHT، GPS، چندر ڈھکی، سرکل بوٹی، تحصیل و ضلع، ایبٹ آباد۔

ایپلانٹ

محکمانہ اپیل

درخواست برآمد معطل/منسوخ فرمائے جانے و روکے جانے عملدرآمد تحت حکم نمبری 2508/10  
محرره 09/03/2017 از دفتر DEO صاحب مردانہ ایبٹ آباد تا فیصلہ اپیل محکمانہ۔

بیان درخواست ذیل عرض ہے۔

- 1- یہ کہ اپیل عنوان دائر کی جا رہی ہے جس کے جملہ مندرجات کو جزو درخواست ہذا گردانہ جانے۔
- 2- یہ کہ اپیل کی اپیل Prima facie ہے اور اپیلانٹ کو کامیابی کا قوی یقین ہے۔
- 3- یہ کہ توازن سہولت اپیلانٹ کے حق میں ہے۔
- 4- یہ کہ اگر حکم DEO منسوخ فرمایا جائے عملدرآمد تحت حکم روکا نہ گیا تو اپیلانٹ کو نا قابل تلافی نقصان کا احتمال ہے۔

لہذا استدعا ہے کہ تا وقت فیصلہ محکمانہ اپیل حکم نمبری 2508/10 از دفتر DEO (مردانہ) ایبٹ آباد  
رجہ عنوان درخواست کو معطل و منسوخ فرمایا جاوے۔

المرقوم: 2017/ 03 29 ایبٹ آباد

فند  
مستند

نواز، PSHT، گورنمنٹ پرائمری سکول چندر ڈھکی، سرکل بوٹی، یونین کونسل ککٹنگ، تحصیل و ضلع، ایبٹ آباد۔۔۔ (اپیلانٹ)  
ساکنہ گاؤں موہری میراہ، یونین کونسل بوٹی، تحصیل و ضلع، ایبٹ آباد۔

ATTESTED

Handwritten marks and scribbles at the top of the page.

OFFICE OF THE ADO(M) CIRCLE BOI ABBOTTABAD.

To

The DEO(M)

Abbottabad.

Subject:- Report regarding misused of conditional grants in circle boi Abbottabad.

Memo.

It is submitted that the following schools reported substandard work on conditional grants.

Sr/No	EMIS Code	Name of School	U/C	Remarks
01	10598	GPS Bagator	Boi	Amount Rs 663600 was released to GPS Bagother for boundary wall. The total area of GPS Bagother 25 marlas The foundation and dpc were already laid .Boundary wall already constructed up to 4 fit and the school also situated near road. Mr Farooq shows amount is not justified PSHT submitted fake file and report. old retaining wall already have length 80*94 and width 80*80 fits .PSHT show 4000 blocks and cover only 25 marla land instead of 2 kannal. <u>PSHT involved in financial embezzlement.</u>
02	10633	GPS Chariali	Boi	PSHT Mr Khalil ur Rehman has no interest in work show fake reports. work on <u>additional room and bathroom not started yet</u> .Work on boundary wall not completed only 174 length from front side retaining wall only 4 fit high completed and 70 fit width retaining wall completed no block used onle 61000 balance in

OFFICE OF THE ADO(M) CIRCLE BOI ABBOTTABAD.

The DEO(M)

Abbottabad.

Subject:- Report regarding misused of conditional grants in circle boi Abbottabad.

Memo,

It is submitted that the following schools reported substandard work on conditional grants.

S/No.	EMIS Code	Name of School	U/C	Remarks
02	10598	GPS Bagator	Boi	Amount Rs 663600 was released to GPS Bagother for boundary wall. The total area of GPS Bagother 25 marlas. The foundation and dpc were already laid. Boundary wall already constructed up to 4 fit and the school also situated near road. Mr Farooq shows amount is not justified. PSHT submitted fake file and report. Old retaining wall already have length 80*94 and width 80*80 fits. PSHT show 4000 blocks and cover only 25 marls land instead of 2 kannal. <u>PSHT involved in financial embezzlement.</u>
02	10631	GPS Chariali	Boi	PSHT Mr Khalil ur Rehman has no interest in work show fake reports. work on <u>additional room and bathroom not started yet</u> . Work on boundary wall not completed only 174 length from front side retaining wall only 4 fit high completed and 70 fit width retaining wall completed no block used onle 61000 balance in

*1005* *[Signature]* *[Signature]*

03	10316	GPS Kukmar	Kukmar	account report already submitted in your good office. PSHT involved in financial embezzlement. PSHT Mr Aurangzeb has no interest in work show fake reports school found close at 01:15 pm without any information. only 70 fit length and 7 fit height retaining wall completed from front side only and no more amount in account. PSHT involved in financial embezzlement
04	10709	GPS Jander Dakhl	Kukmar	PSHT Mr Haq Nawaz not completed work of boundary wall and no more amount in account report already submitted in your good office.

So report is submitted for strict disciplinary action as per rule through formal enquiry against following teachers involved in financial embezzlement. The ADO(P&D) may please be directed to conducted an enquiry regarding to access/unjustified expenditure claimed by PSHT, and mis used/amount may please be recovered from concerned PSHT.

*[Signature]*  
 S. Irshad Ali ASDEO(M)  
 Circle Boi Abbottabad.  
 2016



عقد نامہ گزارش شدہ سائنس اکیڈمی حیدرآباد میں P.T.C. = 5 = 5  
۱۹۴۷ تک آپ کی طرفت عالیہ میں درج ذیل گزارشات کہ سہ

(۱) P.T.C. حیدرآباد کی حفاظت دیوار کا کام شروع ہوا تو سائنس اکیڈمی  
ہو گیا یعنی (فالج رفوعہ) کی بیماری میں مبتلا ہو گیا

(۲) پیٹر فاسٹر جن نوائل صحت سے معذور کیا کہ میں عام کام ایجنڈا سے  
فصل کر دینا . آپ تک دستخط کر دیں

(۳) سائنس نے اپنے عہدہ معالجہ کی مجوری کو قدر نظر رکھتے ہوئے عام پیک  
دستخط کر دیے . عہدہ لیکے اس کے اہلکار . پشاور . اور کراچی و ملتان

(۴) پیٹر فاسٹر نے عام P.T.C. کہ صبران کی موجودگی میں کہا کہ عام  
کام ایجنڈا سے ہو گا . اور عام افزاجات کے لئے سکول میں لگائی

جاتے گی اور P.T.C. کہ امریکان سے سینٹ ہوگی جبکہ آج  
تک نہ کوئی لکھنے لگائی گئی اور نہ ہی کو سینٹ پہنچے کہ  
اور نہ کوئی مشورہ کیا گیا -

گورنمنٹ کی عدلیت کو کمال زمین فصل کو زمین کی گئی پیٹر فاسٹر نے  
اپنی مرضی سے کہ پیشہ کرے

(۵) نہ سمیت سکول حیدرآباد کی نہ تو چھت ہے نہ حفاظت دیوار ہے . عام فریڈ  
تباہ و برباد ہو چکا ہے . اور سکول کی صحت حالت دیکھ کر رونا آتا ہے

(۶) جو مسلمان سکول کی تعمیر لکھ لایا گیا تھا . اللہ (رہمیں) گئے . پہلے . تقاریر  
پائپ وغیرہ وہ سکول سے غائب ہے . پیٹر فاسٹر صاحب و ابسی کے گئے ہیں

۱۵ لوری سمیت سکول میں ضرورت ہو اسے (درج ذیل) P.T.C. = 5 = 5  
جو کہ مار گاہ ہے -

3190  
27416

Handwritten signature and notes on the right margin.

- 9 اس سے قبل تین عدد درخواست دی ہیں۔ اس میں کہ نہ کسی رکن کو  
 اس موقع پر آیا ہے اور نہ ہی P.T.C عمران کو بلایا ہے  
 (10) انوار اس موقع پر نہ آیا عوام الناس کو شکوک کر رہا ہے  
 (11) سائل نے عینت صبر میں نہ کسی زبان پر سید پر دھوکا کئے ہیں اور نہ  
 حاصل کر رہا ہے کہ یہ اذیت کا علم ہے  
 (12) جس طرح وہ عینت کہ باقی تمام سکولوں کے کام مکمل ہو چکے ہیں  
 اس طرح P.S. حیدرآباد کے کام مکمل کر لیا جائے  
 (13) ضرابہ P.S. حیدرآباد کے لئے عینت جاندار کیس میں تقرر کیا جائے  
 جو 662000 تمام عوام کے حقوق کا پتہ دے  
 (14) P.T.C. کی موجودگی میں گارنٹہ کے اصول کے مطابق عام مسٹرین  
 کا حساب لگایا جائے۔ تاکہ دودھ کا دودھ اور مائی کا مائی پورا کر  
 آپ کی عینت نوازش ہوگی

الحاضرون

14 گارنٹہ پریسنگ ایجنسی = حیدرآباد P.T.C. حیدرآباد  
 0346-9534973 - 13101-3727724-9

وزیر اعلیٰ حیدرآباد K.P.K.	13101-5302940-3 = 03445172425	دینی محمد اسلم ولد عبدالرحمن
وزیر تعلیم	13101-0783205-9	(3) فضل الرحمن ولد عبدالرحمن
صوبہ سکریٹری	3	99 مرزا نذیر ولد کالافان
ڈائریکٹر تعلیم	13101-9567309-1	03475181185
ڈی. سی. او. حیدرآباد	13101-1841949-5	5 عبدالرحمن ولد عبدالرحمن
ڈی. سی. او. حیدرآباد		3435469861

عبدالمجيد

عبدالمجيد

13101-9098000-3 = 0347-9580698

ARabat

عبدالمجيد

17301-1868569-3 - 0345-9183092

~~ARabat~~

13101 - 8046872-9 0345 9565089

13101-10071-3 عبدالمجيد

عبدالمجيد 03475017265

كلاطون

كلاطون

بیت الخلافت در پاکستان ای۔ او۔ جی۔ ضلع الہ آباد۔ اسلام آباد۔  
خداوند عالی

در بیان گزارشات ہنگامہ تعلیم سرگرمیوں کے تمام سکولوں کو حفاظتی  
دیوار بنانے کیلئے کثیر رقم دی ہے جس کے تمام سکولوں کو کام مکمل  
پورے ہیں۔ ان میں ایک برصغیر سکول یسٹ کونسل گنگا پور  
ضلع راجستھان کا ہے۔ جس کی نہ تو قیمت ہے اور نہ ہی حفاظتی دیوار  
کے تفصیلی درج ذیل ہے۔

و جب کام شروع ہوا تو گورنمنٹ کے قانون کے مطابق تمام سکولوں کو  
اور رقم خرچ کرنے کے تمام زمینی امور سے متعلقہ سکولوں کو۔

یہ تمام کام شروع ہوا تو جس میں آء ایم ایف کے تحت کام ہو گیا  
اور جس کے مطابق کئی اسکول بنائے گئے۔ اور ان میں کئی اسکول بنائے گئے۔  
اس دوران میں تمام اسکولوں نے تسلی و سکون سے کام لیا اور ان میں سے  
تمام کام مکمل کر کے گا۔ لہذا اب ایک دستخط کر دیا  
عموماً اگر ہرگز ایک ہی تمام ایک ڈکڑ کر دیا

ان سکولوں میں سے کئی سکولوں کو تعمیر کروانے کے لئے پورا اور باقی سکولوں کو  
تعمیر کروانے کے لئے ضروری ہو گا اور ان تمام سکولوں کو تعمیر کروانے کے لئے

یہ تمام سکولوں کے لئے تمام سکولوں کو کام مکمل ہو چکے ہیں اور ان میں سے  
کئی سکولوں کو حفاظتی دیوار بنانے کے لئے کام مکمل کر لیا جائے

رہی عمارتوں اور دروازوں میں سے کئی سکولوں کو تعمیر کروانے کے لئے کام کر دیا جائے  
اور ان کے پائلوں کو تعمیر کروانے کے لئے کام کر دیا جائے۔  
ان کے عین گزارشات ہیں۔

3/4/516

آئی ایم ایف کے تحت تمام سکولوں کو تعمیر کروانے کے لئے کام کر دیا جائے  
13101-3227724-9-3-03469534973-

میں سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ اردو صحیفہ ہے۔ اس میں  
 معلقاً تحریر لکھ کر دیا گیا ہے کہ ماسٹر جنرل نے جو اس  
 کتابے اس کا صفحہ 33 جو ف ہے وہ غریب ہے۔ اس میں  
 نے جو P.T.C. ماسٹر جنرل تھا۔ وہ 22 ہزار روپیہ  
 سکول کے لورڈ ماسٹر جیڈ کے ماسٹر جنرل کے لئے  
 کہ وہ غریب نہیں ہے۔ 22 ہزار روپیہ ہے۔ اس میں  
 اس غریب کا لگانا ماسٹر جنرل کے لئے ہے۔ اس میں  
 غریب کا لگانا ماسٹر جنرل کے لئے ہے۔ اس میں  
 ہے اس میں کہ ماسٹر جنرل کے لئے ہے۔

مذکورہ معلقہ ہے کہ جو غریب ماسٹر جنرل کے لئے ہے۔ اس میں  
 ماسٹر جنرل کے لئے ہے۔ اس میں 22 ہزار روپیہ ہے۔

7219  
16-217

92  
3027724-9  
346-9534973  
15/08/2017

Barth  
 P.T.C. ماسٹر جنرل کے لئے ہے۔ اس میں  
 ماسٹر جنرل کے لئے ہے۔ اس میں  
 15/8/2017

**-61- ANNEXURE 'C'**

**BEFORE THE HON'BLE KHYBER PAKHTUNKHWA  
SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR**

Appeal No. 715 /2017

Haq Nawaz PSHT, GPS Jandar Dhakki Circle Boi, Tehsil and District  
Abbottabad.

...APPELLANT

VERSUS

Director Education Elementary & Secondary Education KPK, Peshawar &  
others

...RESPONDENTS

APPEAL

INDEX

S.#	Description	Page #	Annexures
1.	Service Appeal	01 to 08	
2.	Application for suspension	09 to 10	
3.	Copy of the reports	12-13	"A"
4.	Copy of order Endst: No. 2501-10/FP&D/Circle Boi dated 09/03/2017	14.	"B"
5.	Copy of appeal along with the postal receipt	15-23	"C"
6.	Copy of the report of Engineer from C&W department <i>By other relevant documents</i>	24-25	"D"
7.	Wakalatnama	61	26-60

...APPELLANT

Dated: 10/07 /2017

Through

*[Signature]*

(KHALID RABBANI)

Advocate High Court, Abbottabad

- 62 -



**BEFORE THE HONOURABLE KHYBER PAKHTUNKHWA  
SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR**

Service Appeal No. 715 - ~~1~~/2017

Haq Nawaz PSHT, GPS Jandar Dhakki Circle Boi, Tehsil and District  
Abbottabad.

**...APPELLANT**

Khyber Pakhtunkhwa  
Service Tribunal

Entry No. 796

Dated 10-7-2017


**VERSUS**

1. Director Education Elementary & Secondary Education KPK,  
Peshawar.
2. District Education Officer (Male), Abbottabad.
3. SDEO (Male), Primary Abbottabad.
4. District Accounts Officer Abbottabad.

**...RESPONDENTS**

SERVICE APPEAL UNDER SECTION 4 KPK  
SERVICE TRIBUNAL ACT, 1974, AGAINST  
THE ORDER OF RESPONDENT NO.2  
DECLARING TO THE EFFECT THAT ORDER  
ENDST NO. 2505-10/F P&D CIRCLE BOI  
DATED 09/03/2017 IS VOID, CONTRARY TO  
LAW, BASED ON MALICE, MALAFIDE, ILL  
WILL OF RESPONDENT, ARBITRARY

**Filed to-day**  
10/7/17  
**Registrar**

**ATTESTED**  
  
**REGISTRAR**  
Khyber Pakhtunkhwa  
Service Tribunal,  
Peshawar

HENCE INEFFECTIVE ON THE RIGHTS OF  
APPELLANT.


---

Respectfully Sheweth;-

May it please your lordship the brief fact of the  
instant appeal are as under;-

1. That appellant is a teacher by profession and  
joined Education Department as teacher  
BPS-05 in Primary School and after  
completion of job with highly satisfaction of  
the superiors promoted up to BPS-15.
2. That during the present Government Era in  
Education Department a developmental  
Program/ planning was made through which  
for the purpose of security and safety  
Government provided funds to the different  
school for construction of boundary walls  
and for other necessary requirements.
3. That appellant was posted at GPS Jandar  
Dhakki Union Council Kukmong District  
Abbottabad for which Government provided

ATTESTED


  
EXAMINER  
Khyber Pakhtunkhwa  
Service Tribunal,  
Peshawar



funds for the construction of boundary wall and funds were being utilized through PTC under the supervision of local representatives.

4. That appellant has started the work at site for construction of boundary wall with the consent and in consultation with the Chairman PTC, under the supervision of local representatives.
5. That during the continuance till the finalization of the work at site, the local representatives and the Chairman PTC remained satisfied with the progress of appellant for which they have submitted the satisfactory report up to the work done. Copies of the reports are annexed as Annexure "A".
6. That with the malice of the local political workers and for achieving political goals so called inquiry was started against the appellant through respondent No. 2.

ATTESTED

  
EXAMINER  
Khyber Pakhtunkhwa  
Service Tribunal,  
Peshawar

202

7. That neither proper inquiry was conducted nor appellant was provided an opportunity of being heard personally and on the basis of impugned so called inquiry respondent No. 2 awarded punishment to the appellant through letter No. 2208-10 dated 02/03/2017 for recovery of Rs. 3,00,000/- and reduction of appellant from BP2-12 to BP2-14 which is against the law, facts arbitrary, contrary to law and ineffective upon the rights of appellant. Copy of order Encls: No. 2201-10FP&DCircle B01 dated 02/03/2017 is attached as Annexure "B".


8. That against the order of respondent No. 2 appellant preferred departmental appeal along with the application for suspension Status Quo of the impugned order before respondent No. 1. Copies of appeal along with the postal receipt are annexed as Annexure "C".

9. That appeal was sent by the appellant through registry wherein Status Quo was not got issued in favour of appellant.

ATTESTED  


10. That appellant filed a Civil Suit along with the application for suspension of impugned order in the court of SCJ, Abbottabad which was interested to Civil Judge-VI, for adjudication and was fixed for maintainability.
11. That on 12/04/2017 Civil Judge-I, Abbottabad (Magistrate on duty) on behalf of Civil Judge-VI, have returned the suit of appellant under section 10 CPC for want of jurisdiction.
12. That departmental appeal is pending before respondent No.1 no order has been passed on the appeal of appellant by respondent No. 1 yet, and salary of the appellant has been stopped by respondent No. 2 through respondent No. 4.
13. That the order No. 2508-10 dated 02/03/2017 and the order for stoppage of the salary of appellant is against the law, fanciful, arbitrary, based on malafide, hence


**ATTESTED**

  
**EXAMINER**  
Khyber Pakhtunkhwa  
Service Tribunal,  
Peshawar



whose report shows that work done at the site is of Rs. 11,85,710/- value where as total amount/Grant for the purpose was only Rs. 6,60,623/-. Copy of the report of Engineer from C&W department is annexed as Annexure "D".

- e) That a PTC is constituted for the purposes like the case of appellant and as per the rules PTC fund is non auditable and if there is any need only third party can check the mature for the purpose of which Secretary Education will constitute/appoint third party.
- f) That the whole story against the appellant is based on malafide, during personal hearing in another matter Ex DEO Mr. Zia ud Din (Now Dead) had abused appellant and has appointed from his own office SDEO Mr. Babar Bashir as inquiry officer who leveled false allegations against appellant only for the satisfaction of his boss.

**ATTESTED**  
  
**EXAMINER**  
Khyber Pakhtunkhwa  
Service Tribunal,  
Peshawar

It is, therefore, humbly prayed that on acceptance of the instant appeal the impugned notification may kindly be declared as null and void and consequently appellant be exonerated from the charges. Any other relief which this Honourable Court deem fit and proper in the circumstance of the case.

Dated: 10/07 /2017

Through

...APPELLANT

*[Handwritten Signature]*

(KHALID RABBANI)  
Advocate High Court, Abbottabad

VERIFICATION:-

Verified on oath that the contents of forgoing service appeal are true and correct to the best of our knowledge and belief and nothing has been concealed therein from this Honourable Court.

*[Handwritten Signature]*  
...APPELLANT

Certified *[Signature]* copy  
Khyber Pakhtunkhwa  
Service Tribunal,  
Peshawar


Date of Presentation of Application 12-12-17  
Number of Words 3200  
Copying Fee 18/-  
Urgent 222  
Total 20/-  
Name of Copyist *[Signature]*  
Date of Completion of Copy 12-12-17  
Date of Delivery of Copy 12-12-17

# ANNEXURE 'D' -70-

## BEFORE THE HONOURABLE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR

Service Appeal No. 715 -/2017

Haq Nawaz PSHT; GPS Jandar Dhakki Circle Boi, Tehsil and District Abbottabad.



...APPELLANT

Kyber Pakhtunkhwa  
Service Tribunal

Entry No. 796

Dated 10-7-2017

1. Director Education Elementary & Secondary Education KPK, Peshawar.
2. District Education Officer (Male), Abbottabad.
3. SDEO (Male), Primary Abbottabad.
4. District Accounts Officer Abbottabad.

...RESPONDENTS

SERVICE APPEAL UNDER SECTION 4 KPK  
SERVICE TRIBUNAL ACT, 1974, AGAINST  
THE ORDER OF RESPONDENT NO.2  
DECLARING TO THE EFFECT THAT ORDER  
ENDST NO. 2505-10/F P&D CIRCLE BOI  
DATED 09/03/2017 IS VOID, CONTRARY TO  
LAW, BASED ON MALICE, MALAFIDE, ILL  
WILL OF RESPONDENT, ARBITRARY

Filed to day  
10/7/17  
Registrar

ATTESTED

EXAMINER  
Kyber Pakhtunkhwa  
Service Tribunal,  
Peshawar

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL,  
CAMP COURT ABBOTTABAD

Service Appeal No. 715/2017

Date of Institution... 10.07.2017

Date of decision... 23.11.2017



Haq Nawaz, PSHT, GPS Jandar Dhakki Circle Boi, Tehsil and District,  
Abbottabad. ... (Appellant)

Versus

1. Director Education, Elementary & Secondary Education, Khyber  
Pakhtunkhwa, Peshawar. .. (Respondents)

Handwritten signature/initials on the left margin.

MR. KHALID RABBANI,  
Advocate ... For appellant.

MR. MUHAMMAD BILAL,  
Deputy District Attorney ... For respondents.

MR. NIAZ MUHAMMAD KHAN,  
MR. AHMAD HASSAN, ... CHAIRMAN  
... MEMBER

JUDGMENT

NIAZ MUHAMMAD KHAN, CHAIRMAN: Arguments of the learned  
counsel for the parties heard and record perused.

FACTS

2. The appellant is aggrieved from an order dated 09.03.2017 whereby he  
was awarded penalty of reduction to lower post and also recovery of 3 lacs,  
against which he filed departmental appeal on 29.03.2017 which was not  
responded to and thereafter he filed the present service appeal on 10.07.2017. The

**ATTESTED**

EXAMINER  
Khyber Pakhtunkhwa  
Service Tribunal,  
Peshawar



charge against the appellant was inefficiency, misconduct and corruption as a result of some embezzlement in PTC funds of his school.

ARGUMENTS

3. The learned counsel for the appellant argued that the charge against the appellant is baseless. That the enquiry report is not based on real facts. That the concerned persons have already given some certificates in favour of the appellant which are annexed with the appeal. That the proper procedure was not adopted by the authority. That no charge sheet and statement of allegations was issued to the appellant.

4. On the other hand, the learned Deputy District Attorney argued that the appellant has committed embezzlement and he has rightly been awarded the penalty.

CONCLUSION.


5. The impugned order shows that the charge against the appellant was of embezzlement/corruption. This order also shows that an enquiry officer was appointed who submitted his report but ironically no charge sheet and statement of allegations were issued to the appellant and it appears that the penalty has been awarded on the basis of fact finding enquiry which is not sustainable in the eyes of law.


6. Consequently the present appeal is accepted and the impugned order is set aside. The department is however, at liberty to hold denovo proceedings in

ATTESTED

EXAMINER  
Khyber Pakhtunkhwa  
Service Tribunal,  
Peshawar

accordance with law/rules. Parties are left to bear their own costs. File be consigned to the record room.


  
(Ahmad Hassan)  
Member

  
(Niaz Muhammad Khan)  
Chairman  
Camp Court, A/Abad

ANNOUNCED  
23.11.2017

**Certified to be true copy**

**EXAMINER**  
Khyber Pakhtunkhwa  
Service Tribunal,  
Peshawar

Date of Presentation of Application	30-7-2019
Number of Words	2000-
Copying Fee	20-
Urgent	4-
Total	24-
Name of Copy	
Date of Completion of Copy	30-7-2019
Date of Delivery of Copy	30-7-2019

# ANNEXURE 'E' N-74-


## BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL, KHYBER PAKHTUNKHWA, PESHAWAR

COC No. 180 -A/2017

Haq Nawaz, PSHT Govt. Primary School Jandar Dhakki, Circle Boi, Tehsil  
& District, Abbottabad.

PETITIONER

VERSUS



Qazi Tajamal, District Education Officer, Elementary & Secondary  
Education (Male), Abbottabad & others.

...RESPONDENTS

### CONTEMPT PETITION

#### INDEX

S.#	Description	Page #	Annexures
1.	Contempt petition alongwith affidavit	1 to 7	
2.	Copy of appeal No.715/2017	8-15	"A"
3.	Copy of order	16	"B"
4.	Copy of the registered postal receipts	17	"C"
5.	Copy of order dated 24/08/2017	18-19	"D"
6.	Copy of account statement of petitioner	20	"E"
7.	Wakalatnama	21	

...PETITIONER

Through

Dated: 10/10 /2017

  
(KHALID RABBANI)

Advocate High Court, Abbottabad

-75-

**BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL, KHYBER  
PAKHTUNKHWA, PESHAWAR**

Khyber Pakhtunkhwa  
Service Tribunal  
Case No. 816  
Date 10-10-17

COC No. 180 - ~~1~~/2017

Haq Nawaz, PSHT Govt. Primary School Jandar Dhakki, Circle Boi, Tehsil  
& District, Abbottabad.


...PETITIONER

VERSUS

1. Qazi Tajjamal, District Education Officer, Elementary &  
Secondary Education (Male), Abbottabad.
2. Babar Bashir, SDEO (Male), Primary Abbottabad.
3. Sardar Muhammad Saleem, District Accounts Officer, Abbottabad.

...RESPONDENTS

**ATTESTED**

  
**EXAMINER** APPLICATION FOR INITIATING CONTEMPT OF  
Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal, Peshawar COURT PROCEEDINGS UNDER ARTICLE 204 OF  
THE CONSTITUTION OF ISLAMIC REPUBLIC OF  
PAKISTAN, 1973.

---

---

Respectfully Sheweth;-

Brief facts out of which present application arises are  
submitted as;-

1. That petitioner filed service appeal No.715/2017 challenging validity of order Endst No.2508-10/F P&D Circle Boi dated 09/03/2017 passed by respondent No.1. Copy of appeal No.715/2017 is annexed as Annexure "A".
  
2. That the matter was fixed before this Honourable Tribunal on 10/07/2017 and this Honourable Tribunal while taking into consideration the submissions of petitioner's counsel not only called comments/ reply of the respondents but also in respect of the application for suspension of operation of impugned order, passed an order *"Notice of application for suspension of impugned order dated 09/03/2017 be also issued to the respondents for the date already fixed. In the meanwhile, recovery shall not be made from the appellant till the next date"*. Copy of order is annexed as Annexure "B".
  
3. That the order of this Honourable Tribunal with the appeal was sent by the office of this Honourable Tribunal and through applicant personally well within time to the respondents.

**ATTESTED**



**EXAMINER**  
Khyber Pakhtunkhwa  
Service Tribunal,  
Peshawar

Copy of the registered postal receipts are attached as Annexure "C".

4. That in disregard to the status quo order passed by this Honourable Tribunal dated 10/07/2017, respondents stopped the salary of applicant.
5. That appeal was fixed again for hearing before this Honourable Tribunal on 24/08/2017 where counsel for the applicant brought into the notice of this Honourable Tribunal that despite restraint order dated 10/07/2017 regarding non-recovery of the amount, the pay of the appellant has been stopped and requested that a specific order should be passed against the respondents to release salary of the appellant.
6. That the request of counsel for petitioner was accepted and the Honourable Tribunal was pleased to passed an order that salary of the petitioner be released till further orders on 24/08/2017. Copy of order dated 24/08/2017 is attached as Annexure "D".

**ATTESTED**

**EXAMINER**  
Khyber Pakhtunkhwa  
Service Tribunal,  
Peshawar

7. That again to disregard the clear orders of this Honourable Tribunal, respondents willfully disobeyed while keeping aside the orders, have further stopped the salary of the petitioner and till today the respondents have not issued the salary of petitioner. Copy of account statement of petitioner is attached as Annexure "E".

8. That petitioner being aggrieved, seeks indulgence of this Honourable Tribunal/ Court to invoke its indulgence under Act 204 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, 1973 and punish the respondents under the same on the following grounds, inter-alia, others;-

**GROUND:-**

**ATTESTED**

EXAMINER  
 Khyber Pakhtunkhwa  
 Service Tribunal,  
 Peshawar

a) That by stopping the salary of petitioner the respondents have disobeyed the orders passed by this Honourable Tribunal on 10/07/2017 and 24/08/2017.

b) That non-compliance with directions of Court/ Tribunal is a contempt of court and the act of stoppage of salary of petitioner

intends to prejudice the determination of matter pending before the Tribunal.

- c) That the conduct of respondents No.1 to 3 reflects clear violation of judicial order passed in simple language, understandable to a man of ordinary prudence, *what to talk of functionaries of state holding responsible posts.*
- d) That salary of petitioner is to sole income of the family comprising over 08 members including ill mother.
- e) That petitioner felt agony during the past two Eids while unable to produce compulsory livelihood i.e food and clothes etc of the minor children and ill mother due to the stoppage of salary.
- f) That respondents were restrained from acting in a particular manner, but inspite of service of notice and having come to know of the passing of court order, they act in a

**ATTESTED**

*[Signature]*  
**EXAMINER**  
Khyber Pakhtunkhwa  
Service Tribunal,  
Peshawar



manner which frustrate the prohibitory orders passed by the Court.

- g) That the functionaries of state, how high so ever they may be, are bound to pay respect and honour to the order passed by a superior Tribunal, purpose is to vindicate honour of court so as to keep public confidence on superior courts undiminished and to keep functions of justice free from pollution and obstruction.

It is, therefore, prayed that on acceptance of the instant application, this Honourable Tribunal may be pleased to punish the respondents for clear violation of this Tribunal orders dated 10/07/2017 and 24/08/2017.

**ATTESTED**

EXAMINER  
Khyber Pakhtunkhwa  
Service Tribunal,  
Peshawar

Any other relief which this Honourable Tribunal may deem appropriate and fit may also be granted.

*Justice*

...PETITIONER

Dated: 16/10 /2017

Through

*[Signature]*  
(KHALID RABBANI)  
Advocate High Court, Abbottabad

**BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL, KHYBER  
PAKHTUNKHWA, PESHAWAR**

COC No. \_\_\_\_\_ -A/2017

Haq Nawaz, PSHT Govt. Primary School Jandar Dhakki, Circle Boi, Tehsil  
& District, Abbottabad. **...PETITIONER**

**VERSUS**

Qazi Tajjamal, District Education Officer, Elementary & Secondary  
Education (Male), Abbottabad & others. **...RESPONDENTS**

**CONTEMPT PETITION**

**AFFIDAVIT**

I, Haq Nawaz, PSHT Govt. Primary School Jandar Dhakki, Circle Boi,  
Tehsil & District, Abbottabad, do hereby solemnly affirm and declare that  
the contents of foregoing contempt petition are true and correct to the best of  
my knowledge and belief and nothing has been concealed therein from this  
Honourable Court.

*[Signature]*  
**TESTED**  
**ALTA HUSSAIN**  
**COMMISSIONER**

*[Signature]*  
**DEPONENT**

-82-


**BEFORE THE HONORABLE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL**  
**PESHAWAR CAMP COURT ABBOTTABAD.**

**COC No. 180/2017**

Haq Nawaz.....Appellant

VERSUS

Qazi Tajamal & Others..... Respondents



**Para Wise Comments on Behalf of Respondents No. 1 & 2**

**INDEX**

S #	Description	Page Nos	Annexures
1	Comments alongwith affidavit.	01 to 04	
2	Copy of letter No. 10179 dated 19-09-2017	05	"A"
3	Copy of Source Form 2	06	"B"
4	Copy of Pay Slip	07	"C"
5	Coy of relevant page of Service Book	08	"D"

Dated: 08/11/2017

*[Signature]*  
District Education Officer (M)  
Abbottabad.  
(Respondent No. 1)

*[Handwritten marks]*  
23/17

**BEFORE THE HONORABLE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL**  
**PESHAWAR CAMP COURT ABBOTTABAD.**

**COC No. 180/2017**

Haq Nawaz.....Appellant

VERSUS

Qazi Tajjamal & Others..... Respondents

**PARA WISE COMMENTS ON BEHALF OF RESPONDENTS No. 1 & 2**

**ATTESTED**

**Respectfully Sheweth:-**

Comments on behalf of respondents No. 1 & 2 are submitted as under:

**EXAMINER**  
Khyber Pakhtunkhwa  
Service Tribunal  
Peshawar

**PRELIMINARY OBJECTION:-**

1. That the petitioner has no cause of action to file the instant petition.
2. That the petitioner has filed the present petition just to pressurize the respondents.
3. That the petitioner has not come to this Honorable Tribunal with clean hands.
4. That the petitioner is estopped to sue due to his own conduct.
5. That the instant petition is not maintainable due to non-joinder and mis-joinder of necessary parties.
6. That the instant petition has become infructuous as the salary of the petitioner has been activated.

**Factual Objections:-**

1. That the Para No. 1 of the petition relates to the record hence, need no comment.
2. That the Para No. 2 of the instant petition also relates to record hence, need no comment.
3. In reply to Para No. 3 of the instant petition it is submitted that order of this Honourable Tribunal dated 10-02-2017 was not communicated to answering respondents.
4. That detailed reply has already been given in Para No.03 of the Factual Objections.

5. In reply to Para No. 5 of the instant petition it is submitted that petitioner did not provide the copy of order of this Tribunal dated 24-08-2017.
6. As contended in Para No. 05 of the Factual Objections.
7. In reply to Para No. 7 of the petition it is submitted that on appearance before this Honourable Tribunal dated 18-09-2017, Honourable Tribunal directed the answering respondent to release the salary hence, on the very next day respondent No. 1 issued the direction to respondent No. 2 vide letter No. 10179 dated 19-09-2017 to release the salary of petitioner. Moreover, respondent No. 2 being DDO has activated the pay of petitioner vide source form 2 in the month of October 2017. (Copy of letter No. 10179 dated 19-09-2017, Source Form 2, Pay Slip for the Month of October 2017 and relevant page of Service Book of petitioner are annexed herewith as annexure "A", "B", "C" & "D").
8. In reply to Para No. 8 of the instant petition it is submitted that petition in hand has become infructuous as the salary of petitioner has already been activated.

**Grounds:**


- a. That ground a, as composed is incorrect hence, denied as answering respondents have complied with the order of this Honourable Tribunal in letter and spirit.
- b. That ground b, as composed is incorrect hence, denied as in pursuance to the order of this Tribunal the salary of petitioner has been activated.
- c. That ground c, as composed is incorrect hence, denied.
- d. In reply to ground d, it is submitted that the salary of petitioner has already been activated.
- e. That detailed reply has already been given in preceding paras.
- f. That detailed reply has already been given in preceding paras.
- g. In reply to ground g, it is submitted that answering respondents have implemented the order of this Honourable Tribunal in letter and spirit and salary of the petitioner has been activated in accordance with the direction of this Honourable Tribunal.


**ATTESTED**


**EXAMINER**  
Khyati Chandra  
Service Tribunal,  
Peshawar


h. That the respondents seek leave of this Honorable Tribunal to raise additional points at the time of arguments.

Under the facts and circumstances it is humbly prayed that the instant petition may please be dismissed with cost.

  
District Education Officer (M)  
Abbottabad  
(Respondent No. 1)

  
Sub Divisional Education Officer (M)  
Abbottabad  
(Respondent No. 2)

**Certified to be true copy**  
  
EXAMINER  
Khyber Pakhtunkhwa  
Service Tribunal  
Peshawar

Date of Presentation of Application	30-7-2019
Number of Words	1400
Copying Fee	20-
Urgent	4-
Total	24-
Name of Copyist	
Date of Completion of Copy	30-7-2019
Date of Delivery of Copy	30-7-2019

BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL, KHYBER  
PAKHTUNKHWA, PESHAWAR


Khyber Pakhtunkhwa  
Service Tribunal  
Case No. 816  
Date: 10-10-17

COC No. 180 - 2017

Haq Nawaz, PSHT Govt. Primary School Jandar Dhakki, Circle Boi, Tehsil & District, Abbottabad.

...PETITIONER

VERSUS



1. Qazi Tajjamal, District Education Officer, Elementary & Secondary Education (Male), Abbottabad.
2. Babar Bashir, SDEO (Male), Primary Abbottabad.
3. Sardar Muhammad Saleem, District Accounts Officer, Abbottabad.

...RESPONDENTS

**ATTESTED**

**EXAMINER**  
Khyber Pakhtunkhwa  
Service Tribunal,  
Peshawar

APPLICATION FOR INITIATING CONTEMPT OF  
COURT PROCEEDINGS UNDER ARTICLE 204 OF  
THE CONSTITUTION OF ISLAMIC REPUBLIC OF  
PAKISTAN, 1973.

Respectfully Sheweth;-

Brief facts out of which present application arises are  
submitted as;-

15.01.2019

Petitioner with counsel and Mr. Muhammad Bilal learned Deputy District Attorney alongwith Sohail Ahmad Zeb representative of the respondents present. Petitioner stated that the arrears of difference of pay of BS-14 and BS-15 are still pending. Representative of the respondents seeks adjournment for doing the needful and stated that de-novo inquiry is under process and Show Cause Notice has been issued to the petitioner. Petitioner also received copy of Show Cause Notice from representative of respondents. Adjourn. To come up for further proceedings on 21.03.2019 before S.B at Camp Court Abbottabad.



Member

Camp Court Abbottabad

21.03.2019

Petitioner in person present. Due to general strike of the bar, the case is adjourned. Mr. Sohail Ahmad Zeb Litigation Assistant representative of the respondent department absent. He be put to notice for 23.25.2019. Adjourn. To come up for further proceedings on the date fixed before S.B at Camp Court A/Abad.



Member

Camp Court A/Abad.

**ATTESTED**



**EXAMINER**  
Khyber Pakhtunkhwa  
Service Tribunal,  
Peshawar



15.01.2019

Petitioner with counsel and Mr. Muhammad Bilal learned Deputy District Attorney alongwith Sohail Ahmad Zeb representative of the respondents present. Petitioner stated that the arrears of difference of pay of BS-14 and BS-15 are still pending. Representative of the respondents seeks adjournment for doing the needful and stated that de-novo inquiry is under process and Show Cause Notice has been issued to the petitioner. Petitioner also received copy of Show Cause Notice from representative of respondents. Adjourn. To come up for further proceedings on 21.03.2019 before S.B at Camp Court Abbottabad.



Member

Camp Court Abbottabad

21.03.2019


Petitioner in person present. Due to general strike of the bar, the case is adjourned. Mr. Sohail Ahmad Zeb Litigation Assistant representative of the respondent department absent. He be put to notice for 23.25.2019. Adjourn. To come up for further proceedings on the date fixed before S.B at Camp Court A/Abad.



Member

Camp Court A/Abad

**ATTESTED**

  
**EXAMINER**  
Khyber Pakhtunkhwa  
Service Tribunal,  
Peshawar


19.07.2018

Petitioner Haq Nawaz in person present. Mr. Sohail Ahmad Zaib, Assistant, alongwith Mr. Usman Ghani, District Attorney for respondents present and made a request for adjournment. To come up for further proceedings on 20.09.2018 before S.B at camp court, Abbottabad.

  
Chairman,  
Camp Court, A/Abad

19.09.2018


Since 21st September, 2018 has been declared as public holiday on account of Moharram, therefore, case is adjourned to 15.11.2018 for further proceedings before the S.B at camp court, Abbottabad.


  
Chairman  
Camp court, A/Abad

15.11.2018

Petitioner in person and Sohail Ahmad LO for the respondent present. Due to retirement of the Hon'ble Chairman the Service Tribunal is incomplete. Tour to Camp Court Abbottabad has been cancelled. To come up for the same on 15.01.2019 at camp court Abbottabad!

**ATTESTED**

  
EXAMINER  
Khyber Pakhtunkhwa  
Service Tribunal,  
Peshawar

  
Reader  
A/Abad

-90-

OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER (MALE) ABBOTTABAD

No. 3609 /PF Haq Nawaz Lit


Dated 26 / 3 /2019


The Sub Divisional Education Officer  
(Male) Abbottabad

Subject: SOURCE FORM IN RESPECT OF MR. HAQ NAWAZ PSHT GPS  
JANDAR DHAKI

Memo:

In continuation to this office Memo: No.794 dated 21.01.2019 on the subject cited above and to state that minor penalty of reduction to lower post from PSHT to SPST was imposed upon Mr. Haq Nawaz, PSHT GPS Jandar Dhaki on 09.3.2017. The Honorable Service Tribunal Khyber Pakhtunkhwa camp Court Abbottabad set aside the said order on 23.11.2017. You are therefore, directed to clarify whether his pay was fixed in BPS-14 or otherwise, also intimate the date of reduction to lower post and pay drawn after passing the said order in the source form.

  
DY. DISTRICT EDU. OFFICER (M)  
ABBOTTABAD

**ATTESTED**  
  
**EXAMINER**  
Khyber Pakhtunkhwa  
Service Tribunal,  
Peshawar


25.06.2018

Petitioner, Haq Nawaz, in person present. Mr. Sohail Ahmad, Assistant alongwith Mr. Usman Ghani, District Attorney for the respondents present. The petitioner provided a copy of judgment of this Tribunal dated 23.11.2017 passed in service appeal no. 715/2017 and is placed on record. Vide order sheet dated 20.03.2018, last opportunity was granted to the respondents to submit implementation report. It was further extended vide order sheet dated 16.04.2018. Today the representative of the respondents was present during the proceedings. On being confronted by this Tribunal on account of delay in submission of implementation report, he was unable to give any valid reason/justification.

In view of the position stated above, it appears that delay in submission of implementation report on the part of respondents is deliberate and intentional, as such salary of DEO (M) Abbottabad is attached forthwith. To come up for further proceedings on 19.07.2018 before S.B at camp court, Abbottabad.


**ATTESTED**

**EXAMINER**  
Khyber Pakhtunkhwa  
Service Tribunal,  
Peshawar

  
Member  
Camp court, A/Abad

26.06.2018

Petitioner Haq Nawaz in person present. Mr. Sohail Ahmad, Assistant alongwith Mr. Ziaullah, DDA for respondents present. Representative of the respondents produced order dated 25.06.2018 through which the petitioner has been adjusted as PSHT (BPS-15) against the vacant post at GPS Jandar Dhaki, Abbottabad with immediate effect and till finalization of de-novo proceedings. A copy of the said order was also handed to the petitioner. The order is <sup>also</sup> placed on record. The salary of DEO (M) attached vide order sheet dated 25.06.2018 is hereby released. To come up for further proceedings on 19.07.2018 before the S.B at camp court, Abbottabad.

  
Member  
Camp court, A/Abad

20.03.2018

Petitioner in person and Mr. Kabir Ullah Khattak, Learned Additional Advocate General for the respondents present. Petitioner seeks adjournment as his counsel is not available. Adjourned. To come up for arguments/further proceedings on 20.03.2018 before S.B at camp court Abbottabad.

Member  
Camp Court Abbottabad

20.03.2018

Petitioner in person and Mr. Usman Ghani, District Attorney alongwith Hajjaj, Litigation Officer for the respondents present. Representative of the respondents submitted detail list of payment made to the petitioner regarding arrears upto BPS-14. Representative stated that the case of the petitioner in BPS-15 is in process. The department is afforded last opportunity. To come up for implementation report 21.05.2018 before the S.B at camp court, Abbottabad.

Chairman  
Camp court, A/Abad

16.06.2018

Petitioner alongwith counsel. and Mr. Usman Ghani, District Attorney alongwith Sohail Ahmad Zeb, Assistanmt for the respondents present. Departmental representative submitted that the enquiry is not progress whereas the learned counsel for the petitioner stated that there was no order of enquiry by this Tribunal but copy of the judgment is not on the file. Counsel for the appellant is directed to produce copy of judgment. To come up for implementation report on 25.06.2017 before the S.B at camp court, Abbottabad.

**ATTESTED**


**EXAMINER**  
Khyber Pakhtunkhwa  
Service Tribunal,  
Peshawar


Chairman  
Camp court, A/Abad

24.11.2017

Petitioner alongwith counsel and Mr. Muhammad Bilal, Deputy District Attorney alongwith Sohail Akhtar Zaib, Assistant for the respondents present. Reply on behalf of respondents No. 1 & 2 submitted. According to the petitioner he has received pay of only one month and from May to September, 2017 is yet to be paid. Departmental representative undertook to release the pay to the petitioner till next date. He is directed to release the pay of the petitioner positively before the date fixed. To come up for further proceedings on 17.01.2018 before S.B at camp court, Abbottabad.


17.01.2018

Counsel for the petitioner  Usman Ghani, District Attorney alongwith Saqib Shahzad, Assistant for the respondents present and filed bills in favour of the petitioner submitted to Accounts office. To come up for further proceedings/arguments on 20.02.2018 before S.B at camp court, Abbottabad.


  
Chairman  
Camp court, A/Abad.

20.02.2018

Petitioner in person and Addl. AG alongwith Sohail Ahmad Zeb, ADO for the respondents present. Seeks adjournment. To come up for arguments/further proceedings on 22.02.2018 before the S.B.

  
Member

**ATTESTED**




  
Chairman  
Camp court, A/Abad.

**EXAMINER**  
Khyber Pakhtunkhwa  
Service Tribunal,  
Peshawar

FORM OF ORDERSHEET

Court of \_\_\_\_\_

C.O.C Application No. 180/2017

S.No.	Date of order proceedings	Order or other proceedings with signature of judge or Magistrate
1	2	3
1	10/10/2017	<p>The C.O.C application of Mr. Haq Nawaz submitted today by Mr. Khaled Rabbani Advocate may be entered in the relevant Register and put up to the Court for proper order please.</p> <p style="text-align: right;"> REGISTRAR.</p>
2-	10-10-2017	<p>This C.O.C application be put up before S. Bench on <u>10-10-2017</u>.</p> <p style="text-align: right;"> CHAIRMAN</p>
	0.10.2017	<p>Petitioner alongwith counsel present. Notice of this COC petition be issued to the respondents. To come up for reply/arguments on 23.11.2017 alongwith main appeal at camp court, Abbottabad.</p> <p style="text-align: right;"> Chairman</p>


ATTESTED

EXAMINER  
Khyber Pakhtunkhwa  
Service Tribunal,  
Peshawar

-95-


23.05.2019

Petitioner in person and Mr. Zubair Ali, ADO alongwith Mr. Muhammad Bilal, Deputy District Attorney for the respondents present. Petitioner requested for adjournment. Adjourned to 10.07.2019 for further proceedings before S.B at Camp Court Abbottabad.

  
(Muhammad Amin Khan Kundi)  
Member  
Camp Court Abbottabad

10.07.2019

Petitioner in person and Mr. Sohail Ahmad Zeb, Assistant for the respondents present. Representative of the department submitted implementation report dated 28.05.2019 today. Copy of the same is placed on record. Petitioner seeks adjournment to examine the same. Case to come up for further proceeding on 18.09.2019 before S.B at Camp Court Abbottabad.

  
(Muhammad Amin Khan Kundi)  
Member  
Camp Court Abbottabad

**ATTESTED**

  
EXAMINER  
Khyber Pakhtunkhwa  
Service Tribunal,  
Peshawar

Date of Presentation of Application 30-7-2019  
Number of Words 2600  
Copying Fee 40/-  
Urgent 4/-  
Total 44/-  
Name of Copyist hu  
Date of Completion of Copy 30-7-2019  
Date of Delivery of Copy 30-7-2019



- 96 -

OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER (MALE) ABBOTTABAD.

NOTIFICATION

In pursuance to the judgment of Honourable Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal Peshawar in Service Appeal No. 715/2017 dated 23-11-2017, the penalty of Reduction to Lower Post of SPST (BPS-14) upon Mr. Haq Nawaz is hereby set aside and he is further adjusted as PSHT (BPS-15) against the vacant post of GPS Jandar Dhaki, Abbottabad with immediate effect till the finalization of Denovo proceedings.

Note:-

1. Necessary entry should be recorded in his Service Book.
2. Charge Report should be submitted to all concerned.
3. No TA/DA is allowed to him.

  
DISTRICT EDUCATION OFFICER (M)  
ABBOTTABAD.

Endst: No. 7317-21/Haq Nawaz/Litg

Dated: 25/06/2018

Copy Forwarded for information to the:

1. Registrar Honourable Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal Camp Court, Abbottabad with reference to COC No. 180/2018 dated 25-06-2018.
2. Director Elementary & Secondary Education Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
3. Mr. Muhammad Nisar, Principal GHS Nathai Gali, Abbottabad.
4. Sub Divisional Education Officer (M), Abbottabad for compliance.
5. Mr. Haq Nawaz PSHT GPS Jandar Dhaki, Abbottabad.

- sd -  
DISTRICT EDUCATION OFFICER (M)  
ABBOTTABAD.

To

The Honorable Service Tribunal,  
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar,  
at Camp Court, Abbottabad.


Subject:- RELEASE OF SALARY OF  
DEO (M) Atd in C.O.C # 180/17  
Titled + AQ NAWAZ vs DEO

Respected Sir:-

That the above Titled  
C.O.C is pending in judgement in this  
Honorable Tribunal.


That the salary of the DEO (M) Atd  
has been attached due to the non  
compliance of order sheet dated 20-03-18  
vide order dated 25-06-2018.

That the compliance of order sheet  
dated 20-03-2018 has been made  
by the DEO (M) Atd accordingly, hence,  
the salary of DEO (M) Atd may please  
be released accordingly. (copy of order  
attached).

  
DEO (Male) Atd/18  
Dated: 26-06-2018

# ANNEXURE 'G' -98-

OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER (M) ABBOTTABAD



No. 15057 /P&D

Dated: 22/12/2018

0992-9310102, 0992-330131


EDO.Education.Atd@gmail.com

The Sub Divisional Education Officer  
Male Abbottabad

Subject: SHOW CAUSE NOTICE

Memo:

Show cause notice: in respect of Haq Nawaz PSHT GPS Jandar Dhaki UC Kukmang. You are directed to serve the same to him and return one copy to this office as a token of receipt.

  
District Education Officer (M)  
Abbottabad

**SHOW CAUSE NOTICE**

I, Qazi Tajammal Hussain, District Education Officer (Male) Abbottabad as Competent Authority under the Khyber Pakhtunkhwa Government Servants (Efficiency & Discipline) Rules, 2011, do hereby serve you Mr. Haq Nawaz, PSHT, GPS Jandar Dhaki, Circle Boi Abbottabad, as follows:

1. (i) That consequent upon the completion of inquiry conducted against you by the Inquiry Committee vide Memo No. 511 dated 14-07-2018, wherein you were given opportunity of self-defense and cross examination.

(ii) on going through the findings and recommendations of the inquiry committee, the material on record and other connected papers including your defense before the Inquiry Officer: -

I am satisfied that you have committed the following gross misconduct, inefficiency and Corruption under Rule-3 of the rules ibid:

i. *You bitterly failed to appear before the Inquiry Committee in spite of repeated summons issued to you. You not only remained non cooperative to the Inquiry Committee but also disobeyed the order of the August Court.*

ii. *You are involved in financial embezzlement/corruption of Rs.360,000/= (Rupees three lac sixty thousand only) in PTC funds/conditional grant of your school.*

2. As result, thereof, I, as Competent Authority have tentatively decided to impose upon you the major penalty of Dismissal from service with recovery of Rs.360,000/= (Rupees three lac sixty thousand only) under Rule-4 of the Khyber Pakhtunkhwa, Govt: Servants (Efficiency & Discipline) Rules, 2011.

3. You are therefore, required to show cause as to why the aforesaid penalty should not be imposed upon you and also intimate whether you desire to be heard in person.

4. If no reply to this notice is received within seven days or not more than fifteen days of its issuance, it shall be presumed that you have no defense to put in and in that case an ex-parte action shall be taken against you.

**COMPETENT AUTHORITY**

Mr. Haq Nawaz, PSHT, GPS Jandar Dhaki, Circle Boi Abbottabad.

71  
- 100 -  
100

جواب اظہار وجوہ نوٹس (Show Cause) نمبر 15057 بتاریخ 22/12/2018 از دفتر DEO(M)، ایبٹ آباد

(مجازاقتاری)

یہ کہ پیرا گراف نمبر 1 سراسر غلط ہے۔ بحوالہ لیٹر نمبر 511 بتاریخ 14/07/2018 کی بابت من سائل کو کوئی علم نہ ہے اور نہ ہی من سائل کو اتھارٹی مجاز کی طرف سے کوئی چارج شیٹ شوکا زیا انکوآری افسر کی طرف سے کوئی لیٹر ملا ہے۔

یہ کہ آج مورخہ 15/01/2019 دوران سماعت اپیل نمبر 180/17 بعدالت سروس ٹریبونل، ایبٹ آباد <sup>میں</sup> میں عنوان بالا شوکا ز کے بارے میں علم ہوا۔ جو کہ غیر قانونی، ذاتی انا، بد نیتی پر مبنی و انتقامی کارروائی ہے۔ اور محض نوٹس اظہار وجوہ بنی برائیک صفحہ ہے۔

یہ کہ یہ سارا عمل مورخہ 26/06/2018 کے بعد کا ہے۔ جب فاضل عدالت نے آنجناب کی سبلی سٹاپ کی حالانکہ اس میں من سائل کا کوئی قصور نہ ہے۔ اس سے قبل مورخہ 16/04/2018 کی آرڈر شیٹ میں محکمہ خود تسلیم کرتا ہے کہ Denovo انکوآری ابھی پراسس میں نہیں ہے۔ اس سے قبل مورخہ 20/03/2018 کی چارج شیٹ ملاحظہ ہو جس میں محکمہ کہہ رہا ہے اپیل کنندہ کو BPS-15 میں کرنے کا پراسس جاری ہے۔ آرڈر شیٹ لف ہے۔

یہ کہ سائل کی 13/12/1990 سے تاحال تمام سروس بے داغ ہے اور "Good" "Very Good" کارکردگی ہے۔ جس کی بناء پر من سائل کو BPS-5 سے 7، 9، 12، 14 اور پھر BPS-15 میں ترقی دی گئی۔ بقول لاگ بک لف ہیں۔ اس کے علاوہ IMU کی رپورٹ کے مطابق میری کارکردگی 93% ہے۔ جس کی کاپی لف ہے۔ تعمیر ملت میں تو میری کارکردگی بہترین ہے۔

یہ کہ من سائل کے سکول GPS جنڈر ڈھکی (گکینگ) کی چار دیواری کی مد میں حکومت خیبر پختونخواہ محکمہ تعلیم نے 6,60,000/- روپے کی کنڈیشنل گرانٹ دی تھی۔ بینک سٹیٹمنٹ لف ہے۔

جو کہ PTC کے ذریعے لگانا تھی۔ من سائل نے اپنے تاحد علم بہترین کام ایمانداری، دیانتداری سے سرانجام دیا۔ چونکہ سیکرٹری سکول (ہیڈ ٹیچر) اور چیئر مین PTC کے دستخط سے بینک سے رقم نکلائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لوکل نمائندگان کے علاوہ چیئر مین PTC نے بھی تسلی بخش کام کا سٹوکیٹ جاری کیا۔ جس پر ان کے دستخط معہ نشان اگلوٹھا ثبت ہیں۔

- ۱۵۱ -  
۱۵۱

یہ کہ تعمیرات میرا پیشہ نہیں ہے اور نہ ہی اس ضمن میں جانتا ہوں۔ تعمیرات کا کام کسی غیر پیشہ ور کو دینا قانوناً درست نہ ہے۔ اگر ایسا کرنا وقت کی ضرورت ہو تو اس سے قبل تربیت دینا ضروری ہے۔ لیکن محکمہ نے تربیت بعد از کنٹریشن SRSP نامی ایک NGO کے ذریعہ دی ہے جس کا شوقیہ طلب کرنے پر پیش کیا جاسکتا ہے۔

یہ کہ اس ضمن میں من سائل کو نہ تو کوئی PC-1 دیا گیا اور نہ ہی کوئی معاہدہ سائن ہوا۔ اور نہ ہی ٹیکنیکل معاونت کے لئے کوئی انجینئر ہائر کیا گیا۔ جو کہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اگر کام غلط ہو رہا تھا تو اس دوران PTC ارکان ADO سرکل نے Visit کے تو کام بند کیوں نہیں کرایا گیا۔

یہ کہ PTC فنڈز Non Auditable ہے۔ قانوناً اس کا آڈٹ کرنے کا کوئی مجاز نہ ہے اور نہ ہی کوئی آفیسر اس کے کاغذات مانگنے دینے یا رد و بدل کرنے کا مجاز ہے۔ اس کی دیکھ بھال صرف تھرڈ پارٹی کر سکتی ہے جسے حکومت یعنی بیکریٹری تعلیم مقرر کر سکتا ہے۔ موصوف نے کوئی کمیشن مقرر نہ کیا ہے۔ PTC کتابچہ کا صفحہ نمبر 18 اصول نمبر 01 ملاحظہ ہو۔ یہ کہ من سائل نے اپنے علم کے مطابق درست کام کیا ہے۔

تعمیرات کے بارے میں میرا SDO میں DEO صاحب یا انکوآری افسر کچھ نہیں جانتے بلکہ یہ قیاس شناسی پر مبنی انکوآری ہے۔ میں نے جو کام کر دیا ہے۔ انجینئرنگ کی رپورٹ کے مطابق 1185710.78 روپے لاگت کا ہے۔ کاپی لف ہے۔

یہ کہ دوران پرسنل ہیڈنگ سابق DEO ضیاء الدین صاحب (مرحوم) نے گالی گلوچ شروع کر دی اور ذاتی انا کا مسئلہ بنا کر اپنے ہی دفتر کا ماتحت سابق SDO بابر بشیر صاحب کو انکوآری افسر مقرر کر کے مجھ پر مختلف چارجز لگوائے اور مورخہ 09/03/2017 کو من سائل کو حکم نمبر 2508/10 کے تحت تنزیل سکیل اور 3 لاکھ ریکوری کی سزا دی جس کے خلاف من سائل نے حکمانہ اپیل کے بعد بعدالمت سروس ٹریبونل پشاور بیچ ایبٹ آباد میں اپیل دائر کی جو کہ مورخہ 23/11/2018 کو بحق سائل منظور ہوئی۔

یہ کہ پری پلان کی چند مثالیں حسب ذیل ہیں۔

من سائل کو پہلی انکوآری میں شوکاز نمبر 711 بتاریخ 25/01/2016 کو جاری کیا گیا۔ جبکہ عوامی شکایت 03/04/2016 اور 15/08/2017 کو ہوئی۔ جس کی کاپیاں لف ہیں۔ اس طرح ADEO سرکل کی شکایت 30/01/2016 کو ہوئی۔ یعنی شوکاز پہلے اور شکایت بعد میں ہوئی ہے۔

-102-  
470

یہ کہ انکوائری افسر کا تقرر لیٹر نمبر 3824 مورخہ 14/05/2016 کو ہوا۔ جب کہ من سائل کو انکوائری سوال نامہ  
13/05/2016 کو دیا گیا۔ جس پر تاریخ اور انکوائری افسر کے دستخط نہیں ہیں۔ جبکہ میرے جواب پر تاریخ 13/05/2016

ہے۔

یہ کہ 02/06/2016 کی انکوائری رپورٹ میں میرا SDO صاحب مجھ پر تین لاکھ روپے کی کرپشن ثابت کر رہا ہے  
جبکہ 02/12/2015 کو سالانہ معائنہ ٹیم سکول لاگ بک میں لکھی ہے کہ پانچ لاکھ کا کام ہو گیا ہے باقی کام جاری ہے۔

یہ کہ حکمہ مجھے پریشان کر رہا ہے اور ہر معاملہ میں گلٹی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے قبل مجھے ایک معاملہ میں  
تنگ کیا گیا اور معاملہ چیف سیکریٹری خیبر پختونخواہ تک گیا جہاں سے فیصلہ مبنی بر انصاف بحق سائل ہوا۔ اس طرح مورخہ  
07/01/2017 کو آرڈر نمبر 67-265 من سائل کو censure اور ایک دن ریکوری کی غیر قانونی سزا ہوئی۔ جو پچھنی مبنی بر  
بد نیکی و عناد پروری ہے۔ حالانکہ سائل حاضر تھا جو کہ اپیل نمبر 34/18 کے تحت بعد الت سروس ٹریبونل پشاور بیٹ ایبٹ آباد میں زیر  
سماعت ہے اور اس میں آئندہ پیشی 21/03/2019 ہے۔

اب جبکہ آجنا ب کی مورخہ 26/11/2017 کو تنخواہ بند ہونے پر حضور والا میرے خلاف غصہ میں آگئے اور  
Denove انکوائری کروا کر سزا کو ہی بدل ڈالا حالانکہ جناب نے ہی پہلی انکوائری میں تنزیلی سکیل کی سزا اور 3 لاکھ روپے ریکوری  
ڈالی تھی۔ اب جبکہ Dismiss فرام سروس اور 3 لاکھ 60 ہزار کی ریکوری شوکا ز میں تجویز کی ہے جو کہ خلاف حقائق، خلاف روداد و  
مبنی بر بد نیکی، خلاف قانون اور محض قیاسی دلائل پر مبنی ہے۔ اور انتقامی کاروائی ہے جبکہ موقع پر تعمیراتی کام کی بذریعہ ایکسپریٹ انجینئر  
تعمینہ لگایا جا سکتا ہے۔

یہ کہ اگر جناب جواب سے مطمئن نہ ہوں تو پوسٹل ہیئرنگ کے موقع کی استدعا ہے جو کہ سائل کا قانونی حق ہے۔

المرقوم: 13/01/2019

حق نواز PSHT گورنمنٹ پرائمری سکول چندر ڈھکی ککنگ سرکل بوئی، تحصیل و ضلع ایبٹ آباد

ہوم ایڈریس: سوہری میرا (بوئی) تحصیل و ضلع ایبٹ آباد

موبائل نمبر: 0315-5096452

# ANNEXURE 'H'

~~111~~  
~~103~~

OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER (MALE) ABBOTTABAD

No. 1158 /P&D/Haq Nawaz/Boi


Dated 28/1 /2019

The Sub Divisional Education Officer (M)  
Abbottabad

Subject: REPLY OF SHOW CAUSE NOTICE

Memo:

I am directed to refer to the subject cited above and ask you to intimate Mr. Haq Nawaz, PSHT GPS Jandar Dhaki (Boi) to attend office of the District Education Officer (M) Abbottabad on 02.02.2019 at 10.00 AM for personal hearing.




DY: DISTRICT EDU: OFFICER (M)  
ABBOTTABAD

*Reported to Teacher  
Council on 29/1/19 at 3pm*

*witness  
Eid 29/1/19*

*M. Baqir  
Asst.  
R. J. J. J. J.  
conferred*

*29/1/19*







105

گیزا اسٹریٹجی کے تحت اس وائٹ پیپر جوابات کیلئے  
شہزادی افسر (جی، راجہ خان ایئر فورس ڈیو ڈیو) مع ایس ڈی کلپ  
میں سے سائل کو مدد گورنر ریگولر ڈسٹریکشن

4 مارچ 2018ء سے 17 مارچ 2018ء تک  
کی سزا ہوئی۔ جوئے پی آر ڈی 23<sup>11</sup> تو 23<sup>17</sup> سے متعلق  
2018ء کے 26 مارچ کو 15 مارچ سے 26 مارچ  
2018ء کے 23<sup>11</sup> سے 26 مارچ 2018ء تک

میں Demerol انٹرنیٹ کا ذکر ہے۔ اس سے متعلق  
2019ء کو 15 مارچ کو عدالت نے اس  
میں 23 مارچ سے 26 مارچ تک کے دوران کاغذات ملے۔

اس کے ساتھ ہی 23 مارچ سے 26 مارچ تک کے دوران  
مختلف ریگولر لف ٹیپ، الٹی میٹم 18 مارچ کو جاری  
تفصیلات کے ساتھ 23 مارچ سے 26 مارچ تک کے دوران

اور 23 مارچ سے 26 مارچ تک کے دوران  
گیزا میں سائل کو مدد گورنر ریگولر ڈسٹریکشن  
مع ایئر فورس ڈیو ڈیو۔ نواز مسیحی،

2019ء کے 02 مارچ  
2019ء کے 02 مارچ  
2019ء کے 02 مارچ  
2019ء کے 02 مارچ

# ANNEXURE I

-106-



OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER (MALE) ABBOTTABAD

No. 1619 /P&D/Boi  
Dated 11/2 /2019

The Sub Divisional Education Officer (M)  
Abbottabad

Subject: REPLY OF SHOW CASE NOTICE/PERSONAL HEARING

Memo:

With reference to this office Memo: No.1158/P&D/Haq Nawaz Boi dated 28.01.2019 on the subject cited above and ask you that personal hearing in respect of Mr. Haq Nawaz, PSHT GPS Jandar Dhaki Circle Boi is going to reschedule on 16.02.2019 at 10.00 AM in the office of the undersigned. You are directed to intimate the teacher concerned to re-appear for personal hearing and avail the opportunity of self defence.

*sd/*  
DISTRICT EDUCATION OFFICER (M)  
ABBOTTABAD

Endst of Even No. & Date

Copy forwarded to:-

01. ASDEO Circle Boi with the remarks to intimate the teacher concerned
02. Mr. Haq Nawaz PSHT Village Mohri Maira P. O Boi Teshil & District Abbottabad Cell No. 0315-5096452

*Rejdt.*  
*[Signature]*  
DISTRICT EDUCATION OFFICER (M)  
ABBOTTABAD

# ANNEXURE 'J'

-107-

177

پرنسپل ہیئرنگ حق نواز PSHT - GPS جملہ ڈھکی سہیل کوٹی  
تاریخ 16 فروری 2019ء

15. آپ شوکار نوٹس کے جواب کے علاوہ اپنے دفاع میں مزید کچھ  
کہنا چاہتے ہیں تو "تفصلاً" تحریر فرمیں؟

جواب عالی!

ج

گترشتہ سے پوسٹ شدہ۔

\* 22 آج عرصہ 16/19 کو کوٹھن پرنسپل سکول منیر پورہ ایبٹ آباد میں  
DEO (فرورڈ) جناب قاضی مجل میں سے سائل کی پرنسپل ہیئرنگ ہے۔  
جس میں جناب از خود موجود ہیں۔

\* پتہ اس سے قبل عرصہ 2/19 کو سینئر ٹیچر نے اپنا ذاتی سائل  
منسوخ کر دیا۔ اس ہیئرنگ اور اس سے قبل شوکار نوٹس جواب میں  
سائل نے تفصیلاً جواب دیا ہے۔

\* پتہ 2 منیر پورہ ایبٹ آباد P.T. خندڑ کا فرد فرد کا الزام ہے۔ من سائل  
خندڑ ضمنی پتہ جناب ASDO صاحب (اے ڈی اے) کے راجی پتے پر منسوخ  
کام جاری رکھا جب کہ علم تمام منیر پورہ ملنے منتقل ہے۔ لائن سائل  
کام بند کر دیا۔ اور منیر پورہ میں سے منسوخ کر کے منیر پورہ

\* پتہ 2 از خود ایبٹ ہیئرنگ سے منسوخ ہو گیا۔ اس وقت اس کا پتہ 85710/11  
نئے پتے میں سے سائل کی ایبٹ ہیئرنگ منیر پورہ 715/1 عدالت سروس ٹریول  
پیساور منیر پورہ میں ہے۔

اس کے علاوہ من سائل نے آگست 2018ء کو منیر پورہ جسر ایبٹ آباد  
عدالت میں ایبٹ عدالت درخواست لمبراد حصول ثبوت گزارا تھا جس پر  
جناب نے کوئی آرڈر جاری نہ فرمایا ہے۔ پتہ منیر پورہ ڈیپوٹی وارڈ  
کا 70 منیر پورہ تھا۔ (اصل منیر پورہ)

جس کو من سائل اپنی خواہش اور کارنامے اور تراجیح سے

15 ہزار تقابلاً ہے۔  
کام میں شہرت ثابت ہوئی ہے۔ اور غیر پیشہ ور ہیں۔ میرا  
کام نیک رفتار ہے۔ مطابق 16 کو رقم خواہجہ حکم PTC کی شہرت  
مذکورہ NACT SRSP نام 16 کو رقم خواہجہ

16 کو رقم خواہجہ  
میں شہرت ثابت ہوئی ہے۔ اور کارنامے اور تراجیح سے  
کام نیک رفتار ہے۔ مطابق 16 کو رقم خواہجہ حکم PTC کی شہرت  
مذکورہ NACT SRSP نام 16 کو رقم خواہجہ

19 ستمبر 2014 میں 995 رقم خواہجہ  
کام نیک رفتار ہے۔ اور کارنامے اور تراجیح سے  
کام نیک رفتار ہے۔ مطابق 16 کو رقم خواہجہ حکم PTC کی شہرت  
مذکورہ NACT SRSP نام 16 کو رقم خواہجہ

اس کے علاوہ 14 مئی 2014 کو رقم خواہجہ  
کام نیک رفتار ہے۔ اور کارنامے اور تراجیح سے  
کام نیک رفتار ہے۔ مطابق 16 کو رقم خواہجہ حکم PTC کی شہرت  
مذکورہ NACT SRSP نام 16 کو رقم خواہجہ

19 ستمبر 2014 میں 995 رقم خواہجہ  
کام نیک رفتار ہے۔ اور کارنامے اور تراجیح سے  
کام نیک رفتار ہے۔ مطابق 16 کو رقم خواہجہ حکم PTC کی شہرت  
مذکورہ NACT SRSP نام 16 کو رقم خواہجہ

19 ستمبر 2014 میں 995 رقم خواہجہ  
کام نیک رفتار ہے۔ اور کارنامے اور تراجیح سے  
کام نیک رفتار ہے۔ مطابق 16 کو رقم خواہجہ حکم PTC کی شہرت  
مذکورہ NACT SRSP نام 16 کو رقم خواہجہ

19 ستمبر 2014 میں 995 رقم خواہجہ  
کام نیک رفتار ہے۔ اور کارنامے اور تراجیح سے  
کام نیک رفتار ہے۔ مطابق 16 کو رقم خواہجہ حکم PTC کی شہرت  
مذکورہ NACT SRSP نام 16 کو رقم خواہجہ

19 ستمبر 2014 میں 995 رقم خواہجہ  
کام نیک رفتار ہے۔ اور کارنامے اور تراجیح سے  
کام نیک رفتار ہے۔ مطابق 16 کو رقم خواہجہ حکم PTC کی شہرت  
مذکورہ NACT SRSP نام 16 کو رقم خواہجہ